

A	
abatement	کمی
abbreviation	ٹھوٹا روپ
abduction	انگوا
abeyance	مکتوی
ability	قابلیت
ab initio	دُسی لایچ
able	قابل، آبل
abnormal	غارمومولی
abolition	ختم کردن
abolition of post	عوہد ختم کردن
above mentioned	ہمیرکئی لیکھنہ آمت
above quoted	ہمیرکئی دینہ آمت
above said	ہمیرکئی لیکھنہ آمت
absence	غارحاضری
absentee	غارحاضر
absenteeism	غارحاضری ہند عادت
absentee statement	غارحاضری ہند تفصیل
absolute	مکمل
absolute monopoly	پورا جاردا آری
absolute ownership	پورا ملکیت
absorption	(عوہد) برن
abstract	سار
abstract statement	موختر تفصیل
absurd	جے ہوڈ
abundance	بوہتات
abuse of power	تختیارک غلط استعمال
abusive language	بدکلامی
academic	تالیمی
academic discussion	تالیمی بحث
academic leave	تالیمی چھٹی
academic qualification	تالیمی قابلیت
academic record	تالیمی رکاڈ
accede	مائن، اتفاق آسن

accept	ماٺن، تسلیم کران
Acceptance	منظوری
acceptance of office	عوہد رنج منظوری
acceptance of tender	ٹنڈر تسلیم کران
Access	رسائی
Accession	الحاق
Accessory	متفرقہ سامانہ
Accident	حادثہ
acclimatization	ماحولکے گو
accommodation	روزنچ جاے
accompanist	ستی بوج، سنگت دنیو دول
accord	سمجھوتہ
accordance	مطابقت
accordingly	امہ / اتمہ حسابہ
account	حساب کتاب
accountability	جواب دہی
accountable	جواب دہہ
accountancy	ایکونٹسی
	حساب کتاب تھونچ کلام
accountant	اکونٹنٹ / ایکونٹنٹ
account for	وجہ وٹن / حساب دٹن
account head	حساب زمر
accrued benefit	ثلثیہ آمت فاعد
accrued pension	حاصل کرنے آمت تو رمت پنشن
accumulation	جمع کرن
accuracy	صحیحی
accurate	شیقہ
accuse	الزام دہن / راہ کھاژن
accused	ملموم
achievement	آرتھ
acknowledgement	رسید
acknowledgement due	رسیدی
acquaintance	ذانی کار
acquisition	حاصل کران
acquittance	ناکھہ وائن

act	ایکٹ، کاروآبی، قانون، کام
acting allowance	کامہ ہندالونس
action	کاروآبی
action plan	کاروآبی منصوب
active	سرگرم
actively	سرگرمی
activist	سرگرم کارکن
act of God	دیہ سند کزن ردیہ گتھ
act of misconduct	بدتمیزی
acts of commission and omission	بیل چک راتر گوتھن
actual	اصلی
actuals	اصلی تیداد
adaptation	لاگو کزن، بدلاویند آمت رپ
addition	جوڑ
additional charge	مزید چارج
additional fund	مزید فنڈ
additional grant	مزید گرانٹ
additional information	مزید اطلاع / مزید جانکاری
additional pay	مزید تنخواہ
addition and alteration	ژڈ واٹھ
address	پتہ / تقریر
addressee	(چٹھی) رن وول بوزن وول
address of welcome	استقبالی تقریر
adequate	موقول، کافی
adhere to	قائم روژن
ad hoc	عارضی
ad hoc claim	عارضی دعوا
ad hoc committee	عارضی کمیٹی
ad hoc increase	عارضی ہر بر
ad hoc payment	عارضی اداگی
adjacent	نزی دہکی
adjoining (=contiguous)	ستی وول
adjournment	برخاستگی / التوا
adjournment motion	تحریکہ التوا

adjudge	پرکھاؤن
adjudicate	فأصلگزن
adjudication	نباے آنززن
adjudicator	نباے کرن وول رہیا یک
adjustment	بوزشوز
administer	لاگوگزن، انتظام گزن
administer oath	حلف تلیہ ناؤن
administration	انتظامیات
administration of justice	انصاف گزن، عدلگ انتظامیہ
administrative	انتظامی
administrative action	انتظامی کارو آبی
administrative appraisal	انتظامی جائیز
administrative approval	انتظامی منظوری
administrative authority	انتظامی حاکم درسگاہ
administrative control	انتظامی کنٹرول
administrative department	انتظامی محکمہ
administrative head	انتظامی سربراہ
administrative headquarters	انتظامی صدر دفتر
administrative measures	انتظامی قدم
administrative power	انتظامی اختیار
administrative sanction	انتظامی منظوری
administrative technique	انتظامی طور طریقہ
administrative tribunal	انتظامی ٹریبونل
admissibility	قبولیت
admissible expenditure	اختیاری رجائیز خرچہ
admit	دأخل گزن، منظور گزن
admit card	دأخلہ پرچہ
admitted	دأخل، منظور کورمت
admonish	بہو آری کرنی
adoptee	مقبہراہ
adopter	متنبہاہ آنن وول، لاگوگزن وول
adoption	اختیار گزن، ہمنگاہ آنن
adult	بالغ
adulteration	ملاوٹ
adultery	بدکاری
adult franchise	بالغن ہند ووٹ تراونگ حق
ad valorem duty	مولہ حسابہ موصول

advance	پیشگی
advance booking	پیشگی بکنگ
advance copy	پیشگی کاپی
advanced increment	پیشگی انکریمینٹ
advance payment	پیشگی رقم ادا گی
adverse entry	ناموقول اندراج
adverse remarks	ؤلڈیہ لکھتھ آسن
adverse report	خراب رپورٹ
advertisement	اشتہار
advice	مشور، صلاح
advice of payment	ادا گی ہند اطلاع
advisory committee	صلاح کار کمیٹی
advisory council	صلاح کار کونسل
advocate	وکیل، وکالت کرن وول
affairs	معاملہ
affidavit	حلف نامہ
affiliation	واہستگی
affirmation	منظوری
affirmative	ماثون
afford	لائق آسن، خرچہ برداش کرن
aforesaid	ہہر کیہ وندہ آمت
afresh	نوسر
against	برخلاف، مقابلہ
age	واہنس، یوگ
age certificate	واہنسہ ہنر سند
age for suffrage	واہنس (ووٹ تراؤنچ)
age limit	واہنسہ ہند حد
agency	ایجنسی
agenda	اجنڈا، کامہ ہند فہرست
age of retirement	رٹائر گونچ واہنس
age of superannuation	رٹائر گونچ واہنس
aggregation	گل جمع
aggrieved	نامہ لمین
agitation	اڈیشن
AGM (annual general meeting)	سالانہ عام مینٹنگ

agreement	سجھوتہ، اتفاق، رضامندی
agreement form	مقرر نامہ
agriculture	زراعت
agro-industry	زراعتی صنعت
aid	امداد
alarm	الارم، ڈیٹیمون
alertness	خبرگیری
alias	عرف
allegation	الزام
allegiance	یثہ پثہ
alliance	دوستی، اتحاد
allied services	وابستہ سروس
all inclusive cost	کل بل لاگتہ
All India Services	کل ہند سروس
allocation	مُشخص
allotment	ابلاٹ منٹ
allotment letter	ابلاٹ منٹ چٹھی
allottee	یس ابلاٹ منٹ سپر مش آسہ
allowable	منظوری لایق
allowable expenses	قونونی طور جا بخرچہ
allow an appeal	اہیل منظور کرنی، اپیلہ ہند اجازت دین
allowance	ابلاؤنس، جھوٹ
all rights reserved	سارے حقوق محفوظ
alphabetic order	آہجر انوار
altercation	کتھ لڑاے
alternate	اکھ تراؤتھا اکھ، مُبدل
alternative	مُبدل
amalgamation	رُن
amended draft	ترمیم کرنہ آمت مسود
amendment	ترمیم
amenity	سہولیت
amicable	رسا مساپاٹھی، دوستانہ پاتھی
ammunition	گولہ بارود
amortization of debt	قرضہ تکھ وائن
amount	راش، رقم

amount of pension	پشٹنک، رقم
analogous post	برابر عوہد
analysis	تجزی
analytical study	تجزیاتی مطالعہ
ancestor	جد
ancillary industry	پُرِصنعت
animosity	شوہرت، دشمنی
annexure	سٹی تھونہ آمتی کاغذ
anniversary	وہر دوہ
announcement	اعلان
annoyance	ژکھ
annual financial statement	سالانہ مالی تفصیل
annual report	سالانہ رپورٹ
annuity	وری یک
anonymous	بے نام
anonymous complaint	بے نام شکایت
answerability	جواب داری
answer sheet	جواب پرچہ
antagonist	مخالف
antecedents	ذات بھراتھ، اول وائگن
anticipated expenditure	خرچک اندازہ
anticipated income	آمدنی ہند اندازہ
anticipation	انمان
anticipatory bail	پیشگی زمانتھ
anti-corruption measure	کورپشن رکاؤکی اقدام
anti-dumping	جمع خوری خلاف
antique	ناورچہز
apartheid	نسل پرستی
apathy	بے غرضی
apex body	اعلا تنظیم
apology	معافی
appeal	اپیل رگزارش
appearance	حاضری، روپ، صورت
appeasement	خوش آمدی
appellate tribunal	اپیل بوزن وول ٹریبونل
appendix	سٹی تھونہ آمت کاغذ

appliance	(گرس منز) استعمال سپدن و آلی بانہ کیو
	مشین
applicable	لاگو
applicant	درخاس، دندہ وول
application	درخاس، عرضی، لاگو کیوٹھن
application form	درخاستک فارم
applied	لاگو
apply	درخاس دین، لاگو کرن
appointee	نوگری لاگنہ آمت مقرر کرنہ آمت
appointing authority	نوگری لاگن وول حاکم
appointment	تقرری
appointment letter	نوگری لکچ چٹھی، تقرری ہتر چٹھی
Appointments Committee of the Cabinet	کابینا چ تقرری کمیٹی
apportionment of wages	اُجرت حصہ بناے
appraiser	مولہ آنکون
appreciation	شباباشی، ہرن
apprehension	خدشہ، رُن
apprentice	ہچھن وول، ژاٹھ، زیر تربیت
approach	دھہ، رسائی، طریقہ، نظریہ
appropriate	موقول، مناسب
appropriate action	مناسب کارو آبی
appropriate head	موقول زمرہ
appropriation	تخصیجات
approval	منظوری
approximate	لگ بگ، اندازن
aptitude test	سلائیٹک امتحان
arbitrary	منمانی
arbitrate	سالی کرنی
arbitration	منزائون، سالی
arbitration tribunal	سالی کرن وول ٹریبونل
arbitrator	سالی کرن وول
architecture	فن تاہر
archives	مخافظ خانہ
area	علاقہ، روقیہ
area headquarter	علاقہ صدر دفتر

argument	بحث گزین، دلیل دینی
arise	ووتھن، پادہ گدہن
armed forces	مصلح فوج
arrangement	انتظام
arrear	بقایا (رقم)
arrear statement	بقایا تک تفصیل
arrival report	واتنگ رپوٹ
arrogance	جہالتھ
arsenal	تھیار
article	دفعہ، چیز
articles of association	الیسویشن ہندی دفعہ جات
articles	دفعہ جات
ascending order	کھسہ ڈان ترتیب
ascertain	پرکھاؤن
as is where is	جیٹھ چھ / جیٹھ جھ
aspect	پہلو
aspersion	لاٹج
assassination	قتل
assault	حملہ
assemble	سٹن، جوں
assembly	اسمبلی، اجتماع
assent	منظوری
assert	زور دتھوئن
assessee	الیس الیس
assessment	تخمینہ لگاؤن
assessment year	حساب کتاب ڈری
assessor	الیس الیسر
assets	جاہاد
assignee	لیس ذمہ داری دتھوئیہ
assignment	کام، ذمہ دتھوئیہ آمز کام، سپر دکام
assignor	کام دتھوئیہ دول
assistance	مدد
associate	ساتھی ستی تھوئن
association	الیسویشن، واٹھ
assumption of charge	چارج رٹن

assurance	یقین دہانی، بیمہ
assurance company	بیمہ کمپنی
assure	یقین دہنی
at discount	ریاٹس پیڑھ
atomic power	اٹمی طاقت
at par	برابر
at premium	نہس پیڑھ، برس قہنس پیڑھ
attach	ستی تھون، گری کرڈی
attached office	منسلک دفتر
attachment	گری تھنی
attachment order	گری بند حکم، ایچ تھونک حکم
attainment	حاصل
attempt	کوشش
attendance	حاضری
attendance register	حاضری رجسٹر
attendance slip	حاضری پرچہ
attention	دیان، توجہ
attestation	تصدیق
attested copy	تصدیق شدہ کاپی
attitude	ڈتپیر رجحان
attractive salary	جان تخواہ
auction	نیلامی
auctioneer	نیلام کرن وول
auction sale	نیلامی بکری
audience	سامین، بوزن وول، ڈچھن وول
audio-visual display	آواز دار شکل باڈی
audio-visual publicity	صدا بند فلمی پرچار
audit	آڈٹ
audited accounts	آڈٹ کورمٹ کھاتہ
audited balance sheet	آڈٹ کورمٹ بیلنس شیٹ
auditing	آڈٹ گزن
audit objection	آڈٹ اعتراض
auditor's report	آڈٹرسنڈر رپورٹ
auditorium	آڈٹوریم
audit paragraph	آڈٹ پیرا

audit report	آڈٹ رپوٹ
austerity	بچت
austerity measures	بچت کرکے اقدام
authentic	شقیقہ
authorised representative	درگاہ وول نمائندہ
authoritative	درگاہ وول
authority	درگاہ، استھارٹی
authority letter	درگاہ چھٹی
authorized	انتھارائزڈ
authorized capital	منظور شدہ سرمایہ
automatic	خودکار، پانی پانے
autonomous	خودمختار
autonomous body	خودمختار ادارہ
autonomy	خودمختاری
auxiliary	مدتی
available	موہیا، ڈکریاب
average	اوسط
average leave	اوسط چھٹی
aversion	ناہتھ
avert	ٹائسن
avoid	نہ گزن
avoidance of tax	ٹیکس نہ دین
awaited	انتظار آسن، بینہ وول
award	ایوارڈ، دین
awarding authority	اھوارڈ دینہ والہنی اتھارٹی
awareness	بیداری
B	
backdated	پتھہ تاریخ
background	پوت منظر
back log	پتھہ گن رو دمت
back out	بیب ہون، ہٹن
back reference	پتھہ حوالہ
back up	ڈکھ
backward classes	پسماندہ طبقہ
backward tribe	پسماندہ قبیلہ

bad bargain	گانگ سودا
bad behaviour	بُرفُ تہرہ
bad character	بہ کردار
bad climate allowance	خراب موسمی ایلونس
bad conduct	ناکار ورتاو
bad debt	بھسپو مت قرضہ
baggage	سامانہ
bail	زمانتھ
balance	بقایا، توازن
balance brought down	کم کر نم آمت بقایا
balance brought forward	بروہنہ گن تورمٹ بقایا
balanced budget	متوازن بجٹ
balance sheet	بیلنس شیٹ
ballot	بیلٹ، ووٹ
ballot box	ووٹہ صندوق
ballot paper	ووٹہ پرچہ
ban	پابندی، بندش
bank	بینک
bank account	بینک کھاتہ
bank balance	بینک بچت
bank charges	بینک خرچہ
bank guarantee	بینک گارنٹی
bank holiday	بینک چھٹی
banking facility	بینک سہولت
banking hours	بینک کامہ ہند وقت
banking transaction	بینک لین دین
bank rate	بینک شرح
bank reconciliation	بینک حساب ملسہ ناؤن
bankrupt	دیوالی ڈاس
bank security	بینک زمانتھ
bank statement	بینک کھاتہ تفصیل
banquet	سال
bar council	بار کونسل
bargain	سودا
bargaining	در در کرنی
barren land	بخر زمین

barter	بنياد، تروک
base	بنياد
baseless	بے بنياد
basement	تھ خانہ
base year	بنيادی، مؤل
basic	بنيادی طور، اصلی
basically	بنيادی گائے جار،
basic intelligence	ابتداء سُر اگ
basic pay	بنيادی تنخواہ
basic scale of pay	بنيادی تنخواہ شرح
basic training	بنيادی تربيت
basis	بنياد، کسن
batch	بچ، جماتھ، لاکھ
batch number	بچ، نمبر
bearer cheque	بیر چک
before cited	بزؤنہہ و ومنت
behaviour	ڈتہہر
belief	عقيد، وشواس
below par	مومولہ کم
bench	بچ
benchmark	مياؤک نشانہ
beneficial	فأيدہ مند
beneficiary	فأيدہ تلن وول
benefit	فأيدہ
benefit of doubt	شکلک بناہ
benevolence	فأيدہ مندی
benevolent fund	فأيدہ مندی فنڈ
bequeath	وصيت
bequest	وصيت
bereaved	تم ذوہ
best endeavours	بہترین کوشش
betterment	بہتری، خوشانی
bias	تعصب
biased opinion	تعصبی رائے
bibliography	کتابی فہرست
biennial	دوہیہ ہری

bifurcate	بُحصہ کرنی
bigamy	بُزنائیہ کریمہ
bilateral	باہمی
bilingual	نہ زبانوں کے دو زبانوں کے مابین
bicameral	زبانوں کے
bill	بیل
bill of exchange	مقبوضہ بیل
bimonthly report	دو ماہانہ رپورٹ
binding	جلد سازی، آرازی
biodata	بایو ڈیٹا
bipartite	بہ حصہ، زوری، دو حصہ
bipartite agreement	دو حصہ، ترمیم
birth anniversary	وہروود
birth certificate	زینچ سرٹیفکیٹ
birth control	نسیبندی
birth date	زادوہ
birth place	زینچہ جگہ
birth rate	زینچہ شرح
biweekly	دو ہفتی، ہفتے کے دو بار
black economy	ٹورڈیا معیشت
black list	بلیک لسٹ
blackmail	استحصا
black market	ٹورڈیا بازار
blame	الزام، دوش
blank cheque	بلینک چیک
blanket deal	گل سودا، پونختہ سودا
blanket order	پونختہ حکم
blast	دھماکہ
blending	ملناؤن، رزل
block	بلاک
blockade	ناکہ بندی
blocked capital	بند سرمایہ
block letter	وٹھی اچھر
blood donation	خونک عطیہ
blood relations	رگہ ہند آسناد، خونچہ رشتہ
blue collar job	افسری

blueprint	خاکہ
bluff	بازی
board	بورڈ
boarding and lodging	روڈن تیکھن چین
board of directors	ڈائریکٹرن ہنڈ بورڈ
board of revenue	ریونیو بورڈ
body	تنظیم
bodyguard	محافظ
bogus voucher	جعلی ووچر
bonafides	اصلیت، اصلی، حقیقی
bond	بانڈ، چکلہ
bonded labour	بیگار، موزومہ
bonus	بونس
booking office	ٹکٹ گھر
book-keeper	منشی
book-keeping	بہی کھاتہ لیکھن
booklet	کتابچہ
book of reference	حوالہ کتاب
book value	کھاتہ قیمت
booth	بوتھ
booth capturing	بوتھ قبضہ
border allowance	سرحد الاؤنس
border line	سرحد، سرحد چے لاکھ
borrower	قرضہ بینہ وول
borrowing power	قرضہ ٹانگ جس
boss	باس، افسر، حاکم
bottleneck	رُکاؤٹھ
bracket	برکیٹ
boundary	سرحد، بنہ
boycott	بایکاٹ
brain drain	ڈہین، کن شہر: جہرت
branch office	دفتری شاخ
breach	پھٹراؤن، ٹڑن
breach of agreement	قرارچ عدولی
breach of confidence	بھروسہ پھٹراؤن

breach of contract	معاهدہ پھنساؤن، معاہدہ عدولی
breach of discipline	نظم و نسق پھنساؤن
breach of law	قانون پھنساؤن
breach of peace	امنچ خلل
breach of privilege	مراعات پھنساؤن
breach of promise	وعدہ ڈالنا
breach of rule	قاعدہ پھنساؤن
breach of trust	خیانت
breakage	پھنساؤن پھنساؤن
break down	ٹھپ، تھامہ
break in service	نوکری تھینا
break-up	تفعل
breed	نسل
bribe	رشوہ
brief	مؤختصر، باؤتھ
briefing	باؤتھ کرنی
brief resume	مؤختصر زان کاٹاری
brilliant record	شاندار ریکارڈ
bring into notice	ؤن
broadcast	نشریات
broadsheet	تفصیلی ورق
brochure	زانی پرچہ
brokerage	دالال
brought forward (b/f)	بڑوئ کن، توراؤت
budget allocation	مٹھس رقم
budgetary control	بجٹ کنٹرول
budget estimate	بجٹ تخمینہ
budget provision	بجٹ گنجائش
building	عمارتھ
bulk	امبر، تھوک
bulk purchase	تھوک خرید
bulletin	بلٹن
bumper crop	گٹن فصل
bunching of vacancies	خالی اسامتین ہتر زمروہ بندی
bungling	گول مال، گڑبڑ
bureaucracy	افسر شاہی

bureaucrat	سرکاری افسر، افسر شاہ
business class	باپاری درگ
business hours (= hours of business)	با پارگ وقت
businessman	باپاری
buy-back	واپس موڑین، واپسی خرید
buyer	خریدار، گراکھ
bye election (by election)	ضمنی چناؤ
by hand	ڈستی، اتھہ میٹھی
by post	ڈاک ذریعہ
C	
cabin baggage	کابین سامان
cabinet	کابینہ، کابینٹ
cadre	کاڈر
calamity	آفت
calculation	جمع تفرق
calendar year	کلینڈروری
campaign	مہم
campus	کیمپس، احاطہ
campus interview	کیمپس انٹرویو
cancel	رد
cancellation	ردگرن
candidate	وو میدوار
candidature	وو میدو آری
canvassing	پژرد
capability	قابلیت
capable	قابل
capacity	صلاحیت، حیثیت
capital	سرمایہ، رازدانی، ویوٹھا چھر، بوڈ حرف
capital expenditure	بوڈ خرچہ
capital punishment	موتک سزا
capitation fee	کپٹیشن فیس
capture	رٹن
care	خیال، جس
career	نوگری ریا کاڈ
career development	کیریئر بناؤنی

caretaker government	نگراں سرکار
carried forward (c/f)	بڑو ہند پکانو و مت
carry forward	بڑو ہند پکانوان
carrying cost	رکھ رکھاؤ خرچہ
carry over	بڑو ہند پکانوان
cartage	ڈالائے
case	کیس، معاملہ، مقدمہ
case study	کیس مطالعہ
cash	نقدی، نقد
cash balance	نقد باقی
cash book	کیش بک، ہی کھاتیہ
cash card	کیش کارڈ
cash certificate	کیش سرٹیفکیٹ
cash counter	نقدی کاؤنٹر
cash crop	نقد فصل
cash discount	نقد رعایت
cash down	نقد
cash in hand	موجود رقم
cash memo	نقدی پرچہ، کیش میمو
cash payment	نقد ادائیگی
caste	ذات
caste certificate	ذات سرٹیفکیٹ
casting vote	فأصلہ کن ووٹ
casual	عارضی، کچول، سرسری
casual labour	عارضی موزور
casual leave	کچول چھٹی، کچول لیو
casualty	حادثہ
casual vacancy	عارضی خالی جاسے
catalogue	دستاویز فہرست
categorical	واضح
category	زمرہ
catering service	کھین چنچ سروس
caution	خبرداری
caution money	ضمانت رقم
cease fire	فایر بندی

ceiling (as of "price")	حد
celebration	تقریب
cell phone	سیل فون
censor	سنسر
censure	ملامت
censure motion	ملاستی تحریک
census	مردم شماری
central cess	مرکزی محصول
central civil service (CCS) rules	مرکزی سول سروس
central excise	مرکزی ایکسائز
central government	مرکزی سرکار
centralization	مرکزیت
centralized service	مرکزی سروس
centrally funded scheme	مرکزی فنڈ چے اسکیم
centrally sponsored scheme	مرکزی اتیانچے سکیم
central office	مرکزی دفتر
central revenues	مرکزی مالیات
central sales tax	مرکزی بکری ٹیکس
centre	مرکز
century	صدی
cereal	اناج
cerealist	غلہ دار
ceremonial parade	تقریبی پارڈ
ceremony	تقریب
certificate	سند، سرٹیفکیٹ
certificate of fitness	صحت مندی سرٹیفکیٹ
certificate of posting	تقرری سرٹیفکیٹ
certificate of service	سروس سرٹیفکیٹ
certification	تصدیق
certified copy	تصدیق شدہ نقل
certify	تصدیق کرن
cess	آبکاری ٹیکس
cessation	خاتمہ
chain	زنجیرہ، جریت
chairman/chairperson	چیرمین
challan	چالان

challenge	چیلنج
chamber	چیمبر، دفتر
chamber of commerce	باپازرک چیمبر
change	بدلاو
chaos	افراقفری
chapter	چپٹر
character assassination	کردار کشی
character certificate	کردار سرٹیفکیٹ
charge	الزام، چارج
charge over property	جاپداونگیس
charge sheet	فرد مجرم
charitable	در مارتھ، اوقاف
charity	دان، خآرات
chart	نقشہ، چارٹ
charter	چارٹر
chassis number	ڈھانچہ نمبر
cheating	دھوکھ دہی
check	چیک، پڑتال، روک
check list	پڑتال فہرست
check post	چیک پوسٹ
chemist	دوا کین وول، کیمسٹ
cheque	چیک
cheque let	چیکہ ورق
chief	زیٹھ، سربراہ
children education allowance	شُری تالیلم الاونس
child exploitation	شُری استحصال
child labour	شُری مؤزور
child welfare	بچہ بہبودی
chronic	یشکول
chronological order(=chronological sequence)	ترتیب وار
circle	سرکل، گول دآیرہ
circuit house	سرکیٹ ہاؤس
circular (=circular letter)	دفتری چھٹی
circulation	ورتاؤ
circumstance	حالات وواقعات

circumstantial evidence	حالات و واقعات شہادت
citation	تاریخی سند
citizenship	شہریت
city compensatory allowance	شہری الاؤنس
civic amenities	بلدیاتی سہولت
civil	سول، غیر فوجی
civil code	ضابطہ فوجداری
civil defence	شہری بچاؤ
civil list	سول فہرست
civil marriage	عدالتی تہنقر
civil procedure code	ضابطہ اخلاق
civil service	سول سروس
civil suit	دیوانی مقدمہ
civil supplies	شہری رسدات
civil war	خانہ جنگی
claim	دعویٰ
claimant	دعویدار
claim form	دعویٰ فارم
claim for refund	رقم واپسی دعویٰ
clarification	وضاحت
class	درجہ
classified advertisement	درجہ بند اشتہار
classified documents	خفیہ دستاویز
classified information	خفیہ اطلاع
classify	زمرہ بندی
classwise	درجہ بند
clause	دفعہ
clearance	منظوری، مال موکلاؤف
clear vacancy	یکم خالی اسامی
clerical	لیکھنس متعلق، کلیرکی
clerical cadre	کلیرک کاڈر
clerical error	کلرکی غلطی
clerical staff	کلرکی عملہ
clerical work	کلرک کام
client	گراہ
cloak room	سامانہ کمرہ، کلوک روم

close of the year	دريک اند
closing balance	اندم باقی
closing date	بند کر تک تاریخ
closure	بند کرن
clue	سراغ، نشانہ، اشارہ
co (as in 'co-chairman')	سآتھی
co-accused	سآتھی ملزم
coaching	کوچنگ، سب دین
coalition government	اتحادی پارلمنہ سرکار
code	ضابطہ، کوڈ
code number	کوڈ نمبر
code of conduct	ضابطہ اخلاق
code word	کوڈ لفظ
coding	کوڈ تھاون
coercion	زور ز بردستی
co-existence	یکدہ سن بسن
cognizable	قابل دست اندازی پولیس
cognizable offence	قابل دست اندازی پولیس جرم
cognizance	نوٹ کرن، دھیان دین
coincidence	اتفاق
collaboration	اشتراک
collateral security	
colleague	سآتھی، سنی کام کرن وول
collective	اجتماعی
collective responsibility	اجتماعی ذمہ داری
collectorate	کولیکٹر سنڈ دفتر
collusion	(کانسپیر) لٹھ
colony	کالونی، بستی
colour blindness	رنگہ اینو
column	ژپون، قلم، خانہ
combing operation	تلاشی کاروای
command	کمانڈ
commemoration	یادگاری
commendable	قابل تاریف
commensurate	مطابق
commentary	کمنٹری، اچھو دو چھت حال

comments	تبصرہ، رائے زنی
commerce	باپار
commercial break	کمرشیل ٹیوہن
commission	کمیشن
commissioning	مہتممی
commit	یقرا کرن
commitment	یقرا ر
commodity	چیز
common	عام، مشترکہ
communal	فرکہ دارانہ اپرست
communal harmony	فرکہ دارانہ باے بندت
communicate	دُن، باوتھ کرنی، کتھ باتھ کرنی
communication	مواسلات، شچھ
communication gap	دُنس بوزنس منفرق، واندا ناولر بچ کمی
communiqué	اعلان نامہ
community	برادری، سماج، قوم
community centre	برادری مرکز
community development project	سماجی بجایی پروجیکٹ
community service	سماجی خدمت
commutation	ٹھوت راؤن، بدلاؤن
commuted leave	بدلاؤن و مڑ چھٹی
commuted value	گٹوؤمت مول
comparison	تقابل، رلاؤن، ملہ ناؤن
compassion	آر
compassionate ground	ہمدردی بہترنی یاد
compassionate leave	آری یاتی چھٹی
compatible	مقابلہ، لایق، ہبوے
compel	زور کرف، جبور کرؤن
compendium	ہرتر مجموعہ، ٹھوت مجموعہ
compensation	ماوضہ
compensatory allowance	ماوضہ ابلونس
compensatory leave	ماوضہ چھٹی
competence	سلأ پتھ
competent	اہل
competent authority	دسگاہ اتھارٹی

competition	مقابلہ
competitive examination	مقابلہ امتحان
compilation	سوئرن
complaint	شکایت
complaint book	شکایت کاپی
complement	پور کزن، ڈکھ
complementary	مساوی طور، برابر
complete	پور، مکمل کزن
completion certificate	پور کزن سرٹیفکیٹ
compliance	تأمیل
complicated	کھڑی دار
compliment	شہادت، تحریف
complimentary copy	اعزازی کاپی
comply with	تأمیل کزن
composite culture	مشترکہ تہذیب
composition	بناوٹ
comprehensive	جامع
comprehensive insurance	مکمل بیمہ
compromise	سمجھوتہ
compulsory	الزامی
compulsory retirement	زبردستی رٹائرمنٹ، جبرن رٹائرمنٹ
computer	کمپیوٹر
computer centre	کمپیوٹر مرکز
computer friendly	کمپیوٹر موافق
computerization	کمپیوٹر کھارن
computer language	کمپیوٹر زبان
computer literacy	کمپیوٹر زبان
concept	تصور
concern	فکر، تشویش
concession	رعایت
concessional rate	رعایتی در
concession certificate	رعایت سرٹیفکیٹ
conciliation	صلاح
concluding remarks	اختتامی کتھرتاثر
conclusion	حاصل، نچوڑ
conclusive	حتمی

concur	اتفاق کرن
concurrence	اتفاق
condemn	مذمت کرنی
condition	شرط، حالت
conditional	شرطن پتر
conditional acceptance	شرطن تحت منظوری
conditions of contract	ٹھیکلی شرط
conditions of service	نوکری بند شرط
condolence	تعزیت
condone	معاف کرن
conduct	وطیرہ
conduct rules	ویو بار تاقاعدہ
conference	کانفرنس
conference room	کانفرنس کمرہ
conferencing facility	کانفرنس سہولیت
confer	عطا کرن
confidential	خفیہ
confinement	محمد کرن
confirm	تصدیق کرن
confirmation	تصدیق
confirmation of service	نوکری پکے کرنی
confirmation order	تصدیقی حکم
confiscation	خبطی
conflict	تضاد، لڑاے
conflicting views	متضاد خیالات
conformity	پیشیر
congratulation	مبارک، ودو
connection	واٹھ
connivance	ژھوب آ نکار
conscience	ضمیر
consensus	اتفاق
consent	منظوری
consequence	نتیجہ
consequent	اممہ کتر
conservation	رژھراو
consideration zone	قابل غور، زوف علاقہ
consignee	مال رٹن وول

consignment	مال
consignment note	مال پرچہ
consistent	متواتر، پیہم
consolidated fund	مُل فنڈ
consolidated pay	کل تنخواہ
consolidated statement	مکمل بیان
consolidation	یکجا کرن، رلاون
conspicuous	واضح
conspiracy	سائش
constant	پیہم
constituency	چنناؤ حلقہ
constituent	سنگٹھک، حصہ
constitution	آین
constraint	مجبوری
construction	تعمیر
consultant	صلاح کار
consultation	صلاح مشورہ
consultative committee	صلاح کار کمیٹی
consumable item	قابل استعمال چیز
consume	ورٹاؤنی، استعمال کرن، کھوون
consumer's goods	ورٹاؤنی چیز
consumer forum/council	صارف فورم
consumer orientation	گراکھ پیداؤری
consumption	استعمال، ورتاؤ
contact	رابطہ
contact programme	رابطہ پروگرام
contagious disease	لاگ دار بیماری
contain	توبو کرن
contemplate	سوچن، ویزا کرن
contemporary	ہم کال
contempt of court	توہین عدالت
contention	تفاؤ، دعویٰ
contents	مضمون فہرست
contest	لڑن (چناؤ)

context	تنوظر
contingencies	اچانک خرچہ
contingency	بے منصوبہ، اچانک
contingency allowance	وقت سختی الاؤنس
contingency fund	وقت سختی فنڈ
contingency grant	وقت سختی گرانٹ
contingency plan	وقت سختی منصوبہ
contingent charges	پیٹھی وانی خرچہ
continuous appointment	لگاتار نوکر
continuous development	لگاتار ترقی
continuous process	لگاتار عمل
continuous service	لگاتار سروس
contraband	ممنوع
contract	ٹھیکہ
contract deed	ٹھیکہ تحریر
contract of employment	نوکری معاہدہ
contract period	معاہدہ میعاد
contractual document	معاہدہ دستاویز
contractual liability	معاہدہ سٹیڈ آری
contractual service	ٹھیکہ سروس
contradiction	تضاد
contradictory statement	متضاد بیان
contrary	برعکس، برخلاف
contravention	عدولی
contribution	ریت
contributory pension scheme	حصہ داری پنشن سکیم
contributory provident fund	حصہ داری پرووڈنٹ فنڈ
control	نگرانی، کنٹرول
controlling officer	نگرانی افسر
controversial	متنازعہ
controversial matter	متنازعہ در معاملہ
controversy	تنازعہ
convenience	سہولیت
convention	کنونشن، ریواہیت
conventional	ریواہتی

conversant	زانی یاب
convert	بدلاؤن
converted leave	بدلاً و مید چھٹی
conveyance	سوا ری
conveyance allowance	سفر الاونس
conveyance deed	منتقلی معاہدہ
conveyance expenses	سفر خرچہ، پتہ گتہ
convict	سزا دین، الزام ثابت کرن
conviction	جرم ثابت کرن، پونجیہ یقین
convocation	کنووکیشن
cooling off period	تھکھ / میعاد
cooperation	اتھواس
cooperative	کواپریٹو
cooperative society	کواپریٹو سوسائٹی
co-opt	شیرتھاؤن
co-opted member	ساتھی ممبر
co-ordination	تال میل
co-owner	شریکہ
co-partner	حصہ دار
copy	نقل، کاپی
copying	نقل کرن
copyright	جملہ حقوق
cordial	خوشگوار
coroner	موتھ گزرن وول
corporate body	کارپوریٹ تنظیم
corporate planning	کمپنی منصوبہ
corporation	کارپوریشن
corporation tax	کارپوریشن ٹیکس
correction	ڈستی شیرن
corrective measures (=correctives)	سدھار اقدام
correspondence	خط و کتابت
correspondence course	خط و کتابت کورس
correspondence portion	خط و کتابت حصہ
correspondent	نامہ نگار

corresponding	مطابق
corrigendum	دستی پرچہ
corroborate	اتفاق کزن
corroboration	اتفاق
corrupt	رشوہ خور
corruption	رشوہ خوری
corrupt practice	بے ضابطہ و طیرہ
cosmopolitan city	بوڈ شہر
cost	لاگت
cost accountant	کاسٹ اکاؤنٹنٹ
cost analysis	لاگت تجزیہ
cost ceiling	لاگت چد
cost effectiveness	کفایت
cost of living	گزر بسر خرچہ
cost overrun	ہیچر لاگت
cottage industry	کالج صنعت
council	کونسل
council of ministers	وزارتی کونسل
council of states	راجیہ سبھا
counsel	مشورہ، کونسل
counselling	مقررہ دین، نصیحت کرنی
counter	مقابلہ، کاؤنٹر
counter action	جوابی کارروائی
counter affidavit	جوابی حلف نامہ
counter charge	جوابی الزام
counter claim	جوابی دعویٰ
counterfeit currency	جعلی کرنسی
counterfeiting	جعل سازی
counterfoil	اوڈورق، رسیدورق
counter offer	جوابی پیش کش
countersign	دویم دس خط
coup (de etat)	تختہ و لٹاؤن
coupon	کوپن
courier	کوریر
courier service	کوریر سروس
course	وتھ، سمت، کورس، نصاب

courses of study	نصاب
court case	عدالتی معاملہ
courtesy	تعظیم، تعاون، وساطت
court of small causes	یونٹ عدالت
covenant	
cover	مل ورق، لفافہ، پردہ
coverage	کورٹج، دو لیت کرن
covering letter	پیڑھ ورق، اصلی چٹھی، تاری چٹھی
covering memo	تاری یادداشت
covering note	تاری نوٹ
crash programme	وورٹل پروگرام
creamy layer	آسودہ حال طبقہ
creation	تخلیق، بناؤن
creative	تخلیقی
creativity	تخلیقی صلاحیت
creche	اطفال مرکز، بال و آڑی
credentials committee	پرکھائی کمیٹی، ساخت کمیٹی
credibility	ساخت
credit	قرضہ
creditable	قابل پور
credit advice	جمع چٹھی
credit and thrift society	ووزم ورسوسائی
credit card	کریڈٹ کارڈ
credit facilities	قرضہ سہولت
credit entry	قرضہ اندراج
credit note	جمع پرچہ
creditor	لین دار
cremation	داه سنسکار، وڈراؤن
cremation ground	شمشان بھومی، قبرستان
crew	عملہ
crime	جزم
criminal breach of trust	مجرمانہ ویشواس گھات
criminal court	فوجداری عدالت
criminal negligence	مجرمانہ غفلت
criminal offence	جزم

criminal procedure code	تغییرات چند
crisis	بودان، سناٹھ
crisis management	بودانک انہ بوری
criterion	طوطریقہ، کیوٹ
criticism	نوکتہ چینی،
cross	تڑن
cross breed	دوغلہ نسل
cross checking	دوطرفہ پڑتال
crossed cheque	کراس چیک
cross examination	جرح
cross reference	پھیرو، تذکرہ
cross voting	اور پوروٹ تراوان پھیرو
crucial date	اہم تاریخ
crude	کوچ، ناصاف، بدکلام
culpable homicide	ارادتاقتل
culprit	مجرم، شکار
cultivation	زمینداری، کماؤن [زمین]
cultural exchange programme	تمدنی تبادلہ پروگرام
cumulative	کل، جمع کورمٹ
currency	کرنسی، سکہ، نوٹ
currency exchange	سکہ بدلے
currency note	کرنسی نوٹھ
current	کرنٹ، چالو، موجودہ
current account	کرنٹ اکاؤنٹ، چالوکھاتہ
current duties	موجودہ ڈیوٹی
current session	موجودہ اجلاس/چالواجلسا
curriculum vitae (cv)	ذاتی تفصیل
curtail	کم کرن
custodian	کسٹوڈین، محافظ
custody	حراست
custom	رہنہ، ریوایت، روایت
custom(s)	کسٹم، محصول
customary	ریوایتی
customary procedure	ریوایتی عمل، ریوایتی طریقہ
custom duty	محصول

customer	گراھ
customer friendly	گراھ گو
custom examination	کسٹم جانچ
cut down	کم کزن، کٹوتی
cut motion	کٹوتی تحریک
cut off date	آخری تاریخ
cycle	سائیکل، چکر
D	
daily	دوہ دوش
daily allowance	دوہہ الاونس
daily diary	دوہہ ڈیج ڈائری، روزنامہ
daily register	دوہہ ڈیج رجسٹر
daily report	دوہہ ڈیٹک رپورٹ
daily routine	دوہہ ڈیٹک کام، معمولی کام
daily wages	دوہہ موزوری
dak stage	ڈاک سطح
dak tray	ڈاک ٹری
damage	نقصان
damages	حرجانہ
dangerous	خطرناک
daring	بہادر
data	اعداد و شمار، ڈاٹا
data bank	ڈاٹا بینک
data base	ڈاٹا بیس
data collection	اعداد و شمار سومیراؤز
data feeding	ڈاٹا بھرن
data processing	ڈاٹا ورتاؤ
date	تاریخ
date of arrival	یٹک تاریخ
date of birth	زینک تاریخ
date of departure	روخصت تاریخ
date of discharge	چھٹی تاریخ

date of maturity	پوڑ سپد تک تاریخ
date of receipt	رسیدی تاریخ
date stamp	تاریخ مہر
day scholar	دوہلی سکالر
day shift	دوہیو آری
days of grace	رعایتی دوہیہ
day to day work	دوہیہ شیفت کام
dead account	بند کھاتہ
dead line	آخری مدت
deadlock	شٹلڈار
dead stock register	گال کھاتہ رجسٹر
dead weight	گُل بار
deal	سودا
dealing assistant	متعلقہ کلرک
dealing	ویو ہار، لین دین
death anniversary	وہرو آری
dearness allowance	درو جزا الاؤنس
death benefit	مرن لاجھ
death-cum-retirement gratuity	مرن یہ ریٹائر گریجویٹی
death in service	نوکر ی شرمین
deauthorization	اختیار نین
debar	روکاؤن، منع کرن
debit	کھاتس تراؤن
debit advice	کھاتس تراؤنک پرچہ
debt	قرضیہ
debt management	قرضیہ انتظام
debtor	سودا، لائبر
deceased	موموت، سوگواؤی
decency	رت ویو ہار، مہذب آسن
decentralization	غیر مرکوزیت
deciding factor	فأصلد کرن وول
decision	فأصلد

decision making	فأصله كرن
decision making process	فأصله كرنج عمل
declaration	اعلان نامہ
declaration of income	آمدنی اعلان
declared value	اعلانی مول
declare on oath	حلیفہ اعلان
decode	کوڈ پھٹر اؤن
decontrol	کنٹرول ہٹاؤن
decorum	تہذیب، شائستگی، جاہز
decrease	کمی
decree	ڈگری
dedication	وقف (کرن)
deductible	آن رکمی لایق
deduction	کم کرن، گھٹاؤن
deduction at source	ہیٹھے آئین
deduction from salary	تنخواہ پیٹھے آئین
deed	معاہدہ
deed of mortgage	گرو معاہدہ
deemed university	مانتھ یونیورسٹی ریڈیٹ یونیورسٹی
deface	شکل رسورت بگاڑنی، ہتھ نہناؤنی
de facto	برقرار
defalcation	غبن
defamation	جکت عزتھ
default	غلطی، بقایا، ہر تھ نہ پیکن
defaulter	بقایہ دار
defective	نقص دار
defence	بچاؤ
defence counsel	وکیل صفای
defence production	بچاؤ یا داوار
defendant	بچاؤ کرن وول، ایس خلاف دعوی آسہ
defer	ملتوی
deferred expenditure	ملتوی خرچہ

defiance	ندمانن
deficit	گھاٹ
deficit budget	خارہ بجٹ
define	واضح کرن
defy	نہ مانن
degradation	رتبہ و اُسن
degree	ڈگری
dejure	قاعدہ مطابق
delay	تھیر
delegate	ڈیلی گیٹ، مندوبین
delegated authority	دینہ آمنت اختیار
delegation	وفد
delegation of powers	اختیار دین
delete	تراؤن، آئٹن
deletion	تراؤن، آئٹن، تراؤنچ کاررواے
deliberately	زانتھ مانتھ
deliberation	کتھ باتھ
delicensing	لاسن رد کرنی
delimitation	حد بندی
deliver	دین، و اتناون، پرسن
delivery	سپردگی، دین، جواگی، پرسن
demand	منگ
demand note	منگ پرچہ
demarcation	حد بندی، حد مقرر کرن
demi-official	نیم سرکاری
democracy	جمہوریت
demonstration	مظاہرہ
demoralization	حوصلہ تھیراؤن، مایوس کرن
demurrage	ہرجانیہ
denial	نکار، انکار
denomination	وٹہ مول
de novo	نوسبر
deny	نکار کرن، منع کرن

depart	میترن، روانہ پسڈن
department	محکمہ
departmental	محکمہ جاتی، محکمی
departmental action	محکمی کارروای
departmental enquiry	محکمی جانچ
departmental investigation	محکمی تحقیقات
departmental irregularity	محکمی بے ضابطگی
departmental library	محکمہ لائبریری
departmental negligence	محکمہ لاپرواہی
departmental permission	محکمہ اجازت
departmental qualifying examination	محکمہ اہلیت امتحان
departure	نیرن، ڈسٹن
dependency certificate	آویزہ سند
dependent	آویزہ
dependent children	بہتر اونی تشری
deploy	تعیینات کرن
deponent	حلفی گواہ
deportation	ملک بدر کرن
depose	شہادت تارنی
deposit	جمع کرن
depot	ڈپوٹ
depreciation	مول وٹن
depressed class	پتھہ یا بیورگ
deprive	محروم کرن
deputation	ڈیپوٹیشن
deputation allowance	ڈیپوٹیشن الاؤنس
deputy	نائب
deregistered	رجسٹری ختم کرنی
dereliction of duty	ڈیوٹی کوتاہی
dereservation	ریزرویشن موکلاونی
derogation	انادر، بے نرتھ
derogatory	حکک آمیز، توہین
derogatory remark	توہین کتھ

descendant	و ارث
description	وضاحت
deserving	مُحِق
design	ڈیزائن
designate	نامزد کرن
designation	نامزدگر، عہدہ نامہ
despatch	سوژن/رواگی
despatch note	رواگی پر چہ رواگی نوٹ
despatch register	رواگی رجسٹر
destination	منزل
destitute	بے سہارہ
detail	تفصیل
detailed	تفصیل سان/تفصیلی
detect	لون کڈن
detention	حراست/رکاون
detenu	نظر بند
determination	پکد ارادہ
deterrence	ہنیہ، توڑ
detriment	ناموافق
detrimental	نقصان و اتناون وول
devaluation	مول و اُن
devastation	تباہی، ویناش
development	ترقی
deviate	اعتراف (کرن) ڈلن
device	آلیہ، طریقہ
devotion	عقیدت، نشٹھا
diagnose	تشخیص
diagram	شکل
diary	ڈاری
dictation	املا
dies non	چھٹی دوہیہ
diet	غذا

digest	ہضم (کرن)
dignified	پُر ویتار
dignity	ویتار
digression	موضوع نش ڈالڻ
dilatory	گوش (آسن)
dilemma	تذبذب
diligent	مختق
dimension	ویستار
diploma	ڈپلوما
diplomacy	ڈپلومیسی، سفارتی کام
diplomatic immunity	سفارتی چھوٹ
direct	سبؤ د، براہ راست
direct competition	سبؤ دمقابلہ
direct interview	سبؤ انٹرویو
direction	ہدایت
directory	ڈائریکٹری
direct recruit	سبؤ دبھرتی
disallow	نامنظور کرن، منع کرن
disability	نا اہلیت، معتدولہ (آٹن) لیونگ لیور
	(آٹن)
disabled person	لونگ لیور، معذور
disablement benefit	معذور، رعایت
disadvantage	ناموافق صورتح
disagree	نا اتفاق، نہ مانن
disallowed	نہ مانن، منع کرن
disapproval	نامنظوری
disaster	تباہی، بر باد دی
disaster management	تباہی، اندبور، تباہی چارہ
disband	بھٹراؤن، ختم کرن
disbursement	باگراؤن
discard	ترک کرن
discharge	نوکریش ہٹاؤن

discharge slip	ہسپتالہ چھٹی
disciplinary action	تادیبی کارروای
disciplinary procedure	تادیبی طور طریقہ
discipline	ڈسپلن، نظم و ضبط
disclaim	دعویٰ تراون
disclosure	اکشاف
discontent	بے اطمینانی
discontinuance	جاری نہ تھون، ختمیتھ
discontinue	بند کرن، ختم کرن
discord	ان بن
discount	چھوٹ
discover	کھوج کزن، آمانڈن، پتہ لگاون
discredit	رُساوا (کرن) بدنام (کرن)
discrepancy	فرق
discretion	مرضی، تمیز، اختیار
discretionary grant	اختیاری گرانٹ
discretionary power	اختیاری مرضی نہ اختیار
discrimination	بین، فرق
discussion	بحث، کتھ باتھ
dishonest	بے ایمان
dishonour (a cheque)	(چیک) نہ مانی رمانڈن
disintegration	چھلہ کتر
disk	ڈسک
dislocation	جایہ پھیر
disloyal	بے وفا
dismiss	معطل کزن، خارج کزن
dismissal	برخاستگی
dismissal procedure	برخاستگی طریقہ
disobey	نہ مانڈن
disorder	بے ترتیب، گڑبڑ
disorganise	غیر منظم
disparity	تفاوت، نا برابری
dispatch section	روانگی کمرہ، ڈسپچ سیکشن

dispensable	
disperse	باگراوان، بتر بتر گھومڻ
displaced	بے گھر
display	سجاوٹ، نمائش
displeasure	ناخوشی
disposal	نپناون
dispose of	موکاوڻي، کڻڻ
disposition	سچاڻو، مزو
dispossess	قبضہ ہيوان
dispute	تناز
disqualification	نا اہلييت
disregard	نہ مائڻ، بڑتھ نہ کړن
disruption	خلل
dissatisfaction	بے تسلا ہی
dissent	اختلاف، مخالف راے
disservice	غلط کام
dissociate	الگ کرڻ، رگتر من
dissolution	برخاست کړن، پھتر وڻ
dissolve	برخاست کړن، پھتر وڻ
distance learning	غير رسي تاليم
distillery	شراب کارخانہ، بھٹی
distinct	دور، منفرد، واضح
distinguish	فرق کړڻي، تمیز کرڻ
distortion	توڑ مروڑ
distress	تکلیف
distribute	باگړن
distribution	باگروان
district	خلع
district centre	خلع مرکز، خلع دفتر
disturbance	خلل، گڑ بڑ
ditto	بالکل ہوے، بالکل ہشی
diversion	وتھ بدلی
dividend	فایده حصہ

division	ڈیویژن، تقسیم
divorce	خُلَع، طلاق، موکلاؤن
docket	ڈاکیٹ
doctor	ڈاکٹر
document	دستاویز، کاغذ
documentary evidence	دستاویزی شہادت
documentation	دستاویز بنائونی
domicile	اصلی بسکین
domicile certificate	بسکین سند
dominant	غالب
donation	عطیہ
dossier	ڈوزیر
doubtful	شک آور
dove tailing	رلاؤن
down grade	عہدہ رمدہ والئ، حثیت کم کرنی
draft	مسودہ
draft reply	مسودہ جواب
drastic measure	سخت قدم
draw	ڈرا، کڈن
drawer	چیک کڈن وول، دراز
drawing	ڈرائنگ
drought	ہو کھے
dry promotion	تنخواہ رُس ترقی
dual charge	زء چارج
dual citizenship	ڈبل شہریت
due	وَأَجِب
due diligence	وقتس پیہر کام کرنی
dues	بقایہ جات
duly	جایز پائشی
duplicate	وو پر کاپی، نقلی، نقل، جعلی
duration	معیاد
duress	دباؤ

duty	فرض، ڈیوٹی معمول
duty allowance	ڈیوٹی الاؤنس
duty chart	ڈیوٹی چارٹ
duty leave	ڈیوٹی چھٹی
duty room	ڈیوٹی روم
dying declaration	مرن بیان، آخری بیان
dynamics	محركات
E	
earmark	مشخص کرن
earned leave	آرنڈ لیو
earnings	کمائے، آمدنی
eco-friendly	ماحول گو
ecology	ماحولیات، تو درتی ماحول
economic	اقتصادی
economical exploitation	اقتصادی استحصال
economy	معیشت
economy class	کفایتی درجہ
editing	شیرژ آر، ایڈیٹنگ
edition	شمارہ
editorial	اداریہ
education	تألیم
educational career	تألیمی کیریئر
educational institute	تألیمی ادارہ
educational qualification	تألیمی قابلیت
effect	اثر، نتیجہ
effective	کارگر، موثر
effective date	لاگو تاریخ
effects	مال اسباب
efficacy	صلاحیت اثر
efficiency	صلاحیت

efficient	قَابِل
ejectment	بے دخلی
elaborate	وضاحت، ویرمناوہر، ویستار
elapse	موتلن
elected representative	منتخب نمائندہ
election	چناو
electoral college	الیکٹورل کالج
electorate	ووٹ تراون واکر
electrification	بجلی فرآہمی
electronic media	الیکٹرانک میڈیا
elementary	ابتدائی
eligibility	اہلیت
eligibility test	اہلیت امتحان
elimination	ختم کرن
eloquence	فصاحت
embarrass	ہراساں
embezzlement	غبن
emblem	علامتہ، نشان
embossing seal	علامتی موہر
emergency	ایمرجنسی، تباہی، ہنگامی
emergency relief	ہنگامی راحت، ایمرجنسی ریلیف
emergent	ہنگامی
emigration	ترک وطن، ملکہ پناگزیہن
emoluments	اُجرتھ، تنخواہ
empanelment	اندران فہرست
empathy	مدردی
employ	مُلازم لاگن، کامہ پیٹھتھاون
employee	مُلازم
employee participation	مُلازم شرکتھ
employee's contribution	مُلازم دہیت
employees provident fund	مُلازم پرووڈنٹ فنڈ

employer	مَالِك، مُلَا زَم لَ اَ گن وول
employment	مُلَا زَم مَتِه، روزگار، نوکری
employment exchange	روزگار دفتر
employment notice	روزگار نوٹس
employment office	روزگار دفتر
empower	با اختیار بنائون، دسگاہ دار
empowerment	دسگاہ دین
enact	ایکٹ / قانون بناؤن
enactment	قانون سازی / ایکٹ بناؤن
en bloc	حکام
encash	رقم اُٹن، نقد حاصل کرن
enclose	بستی تھون
encouragement	حوصلہ
encroachment	بے جا قبضہ
encumbrance	بار، بوجھ
endorse	تصدیق کرن
endowment	بخشن، عطا کرن
end product	حتمی حال، حتمی چیز، حتمی پُا داوار، نتیجہ
energy	توانائی، قوت، سامر تھ
enforce	تانیف کرن، لاگو کرن
engage	کامہ لَ اَ گن، آؤرتھون
enhancement	برہوتری، بڑاؤن
enjoin	حکیم دین، ذمہ داری دینی
en masse	اجتماعی، ساری سمیتھ
enquiry	پوچھ تاچھ
enrol	بھرتی (کرن)
enrolment (=enrollment)	بھرتی کرن
enrolment number	بھرتی نمبر
en route	دتہ
ensuing	سپدن وول

ensure	یقینی بنائونی
enter	درج کرن، داخل کرن
enterprise	کارخانہ، صنعت
entertain	تفریح (کرن) پڑھی آزی (کرنی)
entertainment	تفریح، شغل
entitle	حقدار بنن، بناون
entitled	حقداری آستز
entitlement	حقداری
entrance	دروازہ، داخلہ، برن
entrant	اڑن وول، بیہ وول
entry	اندراج
entry level job	ابتدائی نوکری سطح، ابتدائی درجہ نوکری
enumeration	شمار کرن، گنن، راون
environment	ماحول، اوند پوکھ
envoy	سفیر، ایلچی
epidemic (disease)	وبا
epitome	خلاصہ
equality	برابری، مساوات
equilibrium	توازن، ڈنڈ، سنگ
equipment	سامانہ، تھیاری
equity	حصہ، کمپنی، ہند حصہ
equivalent	متزاد، مساوی
equivocal	مبہم
eradicate	ختم کرن
errata	غلطی نامہ
error	غلطی، وشف
escalation	بروزھوتری، بڑن، کھسن
escort	اردل
essential	آہم، ضروری
establishment	تکبیل، نفاذ
estimate	تخمینہ، اندازہ
estimated cost	تخمینہ لاگت

ethics	اخلاق
etiquette	وطیرہ
evacuation	بچاؤ تھ کڈن
evade	ٹالسن
evaluation	مولہ آنکون
even number	جفت، ہیوی نمبر
eventual	آخری، اصلی، اندم
eviction	بے دخلی
evidence	شہادت
evolve	بنائون، تیار کرن، شیرن
exact	ہو بہ ہو، بالکل ہیوی
examination	امتحان، جانچ
examinee	دومیدوار، کس جانچ سپد
examiner	جانچ کرن وول، ایگزیمینر
example	مثال
excavation	کھدائی
excellent	استینا، غیر معمولی
exception	غیر معمولی
exceptional	زیر یادہ، علاوہ، ہر
excess	سج، تودلہ، بدلاون
exchange	خزانہ، سرکاری خزانہ
exchequer	آبکاری
excise (=excise duty)	بیون تھون، کڈن
exclude	تخصو، خاص
exclusive	~
excuse	بہانہ، معاف کرن
execute	عملاؤن، بجمل آنن
executive	ایگزیکٹو افسر
executive committee	ایگزیکٹو کمیٹی
executive power	سرکاری اختیار

executives	افسر، پڑ ملازم
executive staff	اہلکار، افسری عملہ
exempt	چھوٹ دینی
exemption	چھوٹ
exercise	مشق، استعمال کرنا
ex gratia	اتھ تھ رقم، امدادی رقم
ex gratia payment	امدادی ادائیگی
exhaust	موکلن، ختم کرنا
exhaustive	جامع
exhibit	نمائش کرنی
exigency	ہنگامی حالت
exim policy	درآمدی برآمدی پالیسی
exit	تخلیہ، بیڑن، کڈنا
exit interview	نہر بیڑنک انٹرویو
exit policy	نکاس پالیسی
exit poll	ووٹ انمان
ex-officio	عہدہ نہریم منصب
exonerate	بری کرنا
expansion	توسیع کرنا، بڑاؤنا
ex-parte	یک طرفہ
expatriation	ملک بدلی
expedient	عملی نقطہ، مناسب
expedite	وڑھ سان کارو آبی کرنی، جلدی کرنی
expel	کڈتھن / نڈھن
expenditure	اخراجات، خرچہ
experience	تجربہ، تجربہ آٹھن
experiment	تجربہ کرنا
expert	مآہر
expiry	موکلن
expiry date	موکلن تاریخن

explanation	وضاحت، طلبی
explicit	خالص، صاف
exploitation	استحصا
explore	پے کڈن اُنٹر اُون، کھوج کرن
explosion	دھماکیہ
export	برآمد
ex-post facto	کرتھ منظوری
express	ایکپریس، فوری، بیان کرن
expression	اظہار
expulsion	کڈن، نوکری مَنزہ یا لگنہ مَنزہ کڈن
expunge	حدف کرن، مہر کڈن
extend	بڑاون
extent	حد
external	تہر م، غیر ملکی
extortion	لوٹن، پونسہ لوٹن
extra	علاوہ، ہر بمانہ، زیادہ
extract	حوالیہ سار
extraordinary	غیر معمولی
extravagant	فضول خرچی
extremist	انتہا پسند
extrovert	کتھ گورائٹنالی
eye witness	چشم دید
F	
fabricate	گرن، بناون
face value	الکتھ مول
facilitate	آسان بناون، سہولت دئی
facility	سہولیت، آسانی
facsimile	نقل
fact	پنر، حقیقت
factionalism	گٹ بندی
factor	عنف
factory	کارخانہ

factual	پوز، حقیقی
faculty	فیکلٹی
fail	نا کام گوئیں، فیل
fair	صاف، شادھ، مائل، مُصفا نہ
faith	عقیدہ، ویشواس
fake	نقلی، جعلی
family	عیال، کُومنتھ
famine	دراگ
fare	کرایہ
farewell	الواع، اختتام
farming	زمینداری، کاشتکاری
fatigue	تھکان
fault	دوش، نقص، غلطی
favour	طرف، حمایت
feasibility	امکان
federation	فیڈریشن
fee	فیس
feed back	رائے (کُتہ متعلق) رد عمل
feeling	جذبہ، احساس، بھاو
felicitate	مبارک کُرن
fellow	ساتھی، فیلو، بر
fellowship	فیلو شپ
female	زنی، مادہ
fertile	زرخیز
fictitious	خیالی
fidelity	وفاداری
field	علاقہ، شوپہ، کھاہ
figure	شکل، اعداد و شمار
file	مشل، فائل
filing	مشل بندی
film	فلم

final	حتمی، آخری، فائل
finance	مالیات، رقم
financial	
financier	مائی
findings	نتیجہ
fine	جزمانہ، سزا
fine arts	فنون لطیفہ، فن تمدن
finger print	اوتگچہ نشان
finished goods	تیار مال
fire	تار، نوکری شرہ کڈن
firing	فائرنگ، گولی چلاونی
firm	فرم، کمپنی
first aid	ابتدائی طبی امداد، مرہم پٹی
first class	فسٹ کلاس، اول درجہ
first division	فسٹ ڈویژن، اول درجہ
first information report	ابتدائی اطلاع رپورٹ
fiscal	مائی
fisheries	گاڈہ (محکمہ) گاڈہ رجھنہ، گاڈہ پالن
fit	تندرست، معقول
fitness	تندرستی، معقولیت
fix	مقرر، شیرن سنبھالن
fixation	مقرر کرین
fixed	مقرر، فلکسڈ، طے شدہ
flag	جھنڈ
flap	فلیپ، نشانہ
flat	سوتر، فلیٹ
fleet	بھھیڑ، جماعت، گروپ
flexibility	لچکلیہ آئن، لچکدار
flight	پرواز، وڈو
flood relief	سہلابہ راحت
floor	فرش، پوتھر، ایوان، پور
flow	روانی

fluctuation	کھس وس، کھسن وسن
foeticide	گر بھ ناش، اڈلیوک (شر) کرن
folder	فولڈر
folio	فولیو، پُورق، ورق
follow	پتہ پتہ پکن، مانن، فلر نکرہ تزن
following	بونہ کنہ (لکپتھ)
follower	مداح، مانن وول، پتہ پکن وول
foment	اُکساوان، تلمن
foot note	فٹ نوٹ، تلمہ کنہ لکپتھ
forced labour	برنگاری
forecast	پیش گوئی
foregone conclusion	مومنمت رپور، سوختنت انجام
foreign	نہیرم، غیر ملکی، ووپر
foreman	فورمین
forenoon	دو پہرہ، ہز فہمہ
foresight	دوراندیشی
foreword	پیش لفظ
forfeit	ضبط کرن
forged	جعلی
forgery	جعلسازی
form	فارم، رُپ، آکار
formal	رسمی
format	فارمیٹ، شکل، صورتھ
former	گوڈ نیگ، ہز ہم
formula	فارمولا
forthwith	ادب، فٹ، تاجلی سان
forward	ہز ہنہ کن، سوزن / ایکناون
forwarding letter	روانگی خط
foundation	بُیاد، کن، فاؤنڈیشن، اہدارہ
fraction	حصہ
franchise	ووٹ، تراونگ حق، ناوورتا و پروانہ

fraud	فراڈ، جعلسازی، دھوکہ دہی
free	مفت، یسلیہ
freeze	منجمد کرنا، شہر اوان، کٹرنگن، بند کرنا
freight	باردانہ، مال
frequency	واری، وار، بار بار سیدن
fuel	اینڈھن، تیل
full-scale	پورہ پیمانہ
function	تقریب
fund	فنڈ، رقم
fundamentalism	بنیاد پرستی، کٹر واد
furnish	فراہم کرنا، پیش کرنا
further action	مزید کارروائی، بروئہ گن کارروائی
G	
gainful employment	فاید مند روزگار
gainful occupation	فایدہ مند پیشہ
gate pass	گیٹ پاس
gazetted	گورنڈڈ (سرکاری) اعلیٰ افسر
gazetted holiday	سرکاری چھٹی
general	عام، جنرل، زہٹھ
general administration	عام انتظامیہ
general body	جنرل باڈی، عام سبھا
general election	عام چناؤ
general meeting	عام میٹنگ
general practice	عام ریوایت
general procedure	عام طریقہ
general rule	عام قاعدہ
general ward	عام وارڈ، جنرل وارڈ
generation	پئے، نسل
genius	ذہین، قابل
genuine	اصلی، صحیح
gift	تحفہ، ڈالی

gist	سار
global tender	عالمی ٹینڈر
glossary	الفاظ فہرست
goal	گول، مقصد
godown	گدام
golden handshake (=golden parachute)	سونیہ اتھواس
good	رُت، جان
good conduct	رُت و طیرہ، رُت و یوہار
good faith	بھروسہ سان، پرژینت
good offices	اثر رسوخ
goodwill	خاں رسگائی، نیک نیتی
govern	حکومت کرنی
governance	حکومت چلاؤنی، سرکار چلاؤنی
government	سرکار
Government of India	بھارت سرکار
Government of India Concern	بھارت سرکار
Government of India Undertaking	بھارت سرکار ک ادارہ
government press	سرکاری پریس، سرکاری چھاپ خانہ
government servants conduct rules	سرکاری ملازم و طیرہ قاعدہ
government service	سرکاری نوکری
gradation	زمرہ بندی، درجہ بندی
grade	گریڈ
grading	درجہ بندی
graduate	گریجویٹ
graduated wages	درجہ بند، موزوری اجرت
graduate trainee	گریجویٹ زیر تربیت
graft	رشوہ کوڑھ
grand total	کل جمع
grant	گرانٹ، امداد
grant-in-aid	گرانٹ ان ایڈ، امدادی گرانٹ
grapevine	غیر مقدمہ خبر، بؤ زمہ کتھ

graph	گراف، خانہ دار کاغذ
graphology	اتھر رکھ گیان
grateful	مشکور، ممنوع
gratuity	گرچیوٹی، سرکارک ریٹائرمنٹ رقم
green hand	اڈ پھل، نا تجربہ کار
greeting(s)	مبارک، پوشیدہ کرن
grievance	شکایت، ناراضگی
grievous	سنجیدہ، شدید
gross	بار، مجموعی، کل
gross amount	کل رقم
gross misconduct	بالکل غلط و یو بار، وطیرہ
gross negligence	سبٹھاہ، غفلت
gross profit	کل نفع
gross revenue	کل آمدنی
gross total	کل جمع
groundless	بے بنیاد، اہڑ، من گھڑت
ground rent	زمینہ کرایہ، ممالیہ
grounds	بنیاد، وجہ
group	گروپ، جماعتھ
grouping and grading	درجہ بندی، زمرہ بندی
guarantee	ضمانتھ، گارنٹی
guarantor	ضمانتھ، دینہ دول
guard	گارڈ، راجھی در
guard file	گارڈ، فائل، محافظ مثل
guardian	سرپرست، نگران
guest house	گیسٹ ہاوس، مہمان گھر، پوٹھی ٹٹھ
guide	گائیڈ
guidelines	ہدایت
guilt	تقصیر، تقصیرک، احساس، جرم
H	

habit	عادته
habitual	عادى
half-holiday	نصف چھٹی
half pay	نصف تنخواہ، اوڈ تنخواہ
hall	ہال
halt	ٹھہرنا
hand	اتھ، دس خط، لکھاوٹھ
handbill	اشتہار
handbook	لوکٹ، کتاب
handicap	معذور، کمی
handle	ہینڈل، سنبھالنا
handloom	ہینڈلوم، آتھ وڈ ائمت
handy	لوکٹ، آسانی وول، دستیاب
hand-over	حوالہ کرنا، دُہن
handwriting	دس خط، لکھاوٹھ
harassment	ہراسمانی
harbour	بندرگاہ
hard labour	سخت محنت
hardware	ہاڈ ویر، مٹینہ سامانہ، شیشیر سامانہ
hard working	مختی، زور رٹن وول
haulage	ڈھلاے
hawker	پھیر وول
hazard	خطرہ
head	سربراہ، زبٹھ، کلہء
head office	ہیڈ آفس، بوڈ دفتر، صدر دفتر
headquarter	صدر مقام، صدر دفتر
health certificate	صحت سند
hearing	سُنو آئی
hearsay	یو زمت، اورک یور
heavy vehicle	یو گاڈی
heir	وارث
held up	روکیومت، بندگومت
herewith	یتھ ریتھ یٹھ

heritage	وراڻت
hierarchy	عہدہ زچکھر، عہدہ ترتیب
higher authority	بوڈ حاکم، بوڈ درگاہ وول
high grade	تھوڈ گریڈ
high level	تھوڈ، تھوڈ سطح
high level decision	تھوڈ سطح فاصلہ
highlights	خاص کتھ
high official	بوڈ افسر
high priority	سبھا ترجیح
high school	ہائی سکول
Hindi version	ہندی ترجمہ
hire	کرایس آنن
hiring	کامہ پیٹھ تھون، موزو رہ آنن
history sheet	احوال نامہ
hoarding	جمع خوری
holding	حصہ، حصہ جات رقم
holiday	چھٹی
homage	خراج عقیدت، شردا نکلی
home	گر، گریلو
homicide	قتل، انسان ماڑن
honest	ایماندار
honorarium	اعزازی اجرت
honorary	اعزازی
honour	یترتھ کرن، ویتار (چیک)
hostel	ہوسٹل
hostile	دشمنانہ
house rent	مکانہ کرایہ
house rent allowance	مکانہ کرایہ الاونس
house tax	مکانہ ٹیکس
housing	مکانہ جات، مکانن شرتھون
housing society	مکانن ہیز سوسائٹی

hue and cry	شور (دو تھن) ہول بارو، ہلیہ
humane	انسانی، دیاوان
human rights	انسانی حقوق
humiliation	انادر، بے عزتھ
hygiene	صفاکی
hypothecation	گر و تھون
idea	خیال
ideal	آدرش
identical	ہیووی/ہیوی
identification	شناخت
identity	پرنٹھ
identity card	شناختی کارڈ
ignorance	جہالتھ، لاعلمیت
ignore	مٹہ راؤن، نظر انداز کرن
illegal	غارقونونی
illegal strike	غارقونونی ہڑتال
illegible	ناصاف لکھاے
ill-feeling	بدزونی
illicit	ناجائز رشتیہ
illiteracy	ناخواندگی
illogical	غار منطقی
illustration	مثال، وضاحت، نقشہ
image	شپہ، خاکبہ
imbalance	نابرابری
immature	نابالغ، کونج
immediate	فوری، وونی
immediate action	فوری کاروآی
immediate officer	فوری افسر
immigrant	غارملکی
immoral	غارمخلاق
immovable	سارکن
immune	مچھ، محفوظ

immunity	چھ آسُن ررورژُن
impact	اثر
impartial	غأر جانبدار
impeachment	ملا مت
impediment	رُكا وٹھ، ٹھوَر
imperative	أا زمی
impersonation	بدل رپ لائُن
implement	لاگو كرن، بعمل آئُن
implicate	پھسأاؤن
implicite	قطعی، بلا شك
import	درآمد
important	أهم، أا زمی، ضرورؤری
importer	درآمد كرن وول
impost	محصول
impound	ضبط كرن
impression	تصور، چھاپ
imprest	بہتری رسد حار
improper	غير مناسب
improve	لائج كھارُن
improvement	بہتری
improvisation	بہترے ہند سلسلہ
impute	
in abeyance	غال كھاتس تھون
inability	نا اہلیت، نہ تگن، نہ كرن
inaccessible	غار گھاٹ، یوت نہ واسنہ بہر
inadmissible	نہ ترن وول رنہ میلن وول
inadvertently	غلطی كنی
inauguration	افتتاح
in cash	نقد
incentive	مراعات، ترغیب
incidental	حادثاتی
inclination	بچكاو، رجحان
inclusive	بشمول

incognito	خفیہ پانھی
income	آمدنی
income tax	انکم ٹیکس
income tax clearance certificate	انکم ٹیکس، بے باگی سند
income tax return	انکم ٹیکس رٹرن
incoming	یندوول رواجین
incompetency	نااہلیت، ناقابلیت
incompetent	نااہل، ناقابل
incomplete	ناکمل، اڈیوک
inconclusive	اڈیوک، ناکمل
incongruous	نا برابر، بے تلسہء
inconsistency	ناہموار، غیر پیہم
inconvenience	زحمت، تکلیف، بے آرامی
incorporated	انداج کورمٹ رادار بنوومٹ
incorrect	غلط
incredible	ناقابل یقین
increment	انکریمینٹ، تنخواہ ہریر
incumbent	وومیدوار، کام کرن وول، عہدار
incumbrance	بار، بوز
indemnification	تقصائی پرنی، پوزر کرن
indent	منگ پرچہ
independence day	آزادی دوہہ، یوم آزادی
independent	آزاد، خود مختار
index	گوشوار
index card	گوشوار کارڈ
indication	اشارہ، اطلاع
indict	ملوث کرن
indifference	مایوسی، بے دلی
indirect	ورگیر
indiscipline	نظم و نسق بھڑاون

indiscretion	بغير سوچ
indiscriminate	انہ کھلمہ
indisputable	بے واد
indistinct	مُسمہم
indorsement	تأید
individual	فرد، ذاتی
induction	برقی
in duplicate	دو گن، نرکاپیہ، نقل پیٹھ
industrialization	صنعتی پھالاولو
industrial staff	صنعتی عملیہ
industrious	مختی
industry	صنعت
inefficiency	نا اہلیت
inequity	نا برابری
inevitable	بآوی
inexpedient	نامناسب، غائر تقیدی
inexperienced	نا تجربہ کار
in fact	ثکہ، دراصل
infection	لاگ، انفیکشن
inferior	اوسا پایہ
infirmity	کمزوری
inflation	سنگ پھالاولو
inflation rate	سنگہ کہ پھالاولو ک شرح
influential	اثر سوخ وول
informal	غائر رسمی
information	اطلاع
infrastructure	بنیادی ڈھانچہ
infringe	بے جا دخلت
infringement	بے جا دخلت کرنی
infructuous	بے معنی
inherent	وراشتی، سہیل
inherit	موروثی

initial	ابتدائی
initials	شہوت دس خط
initiate	شورڈ کرن
injunction	عبوری عدالتی حکم
injury	نقصان، زخم
inland letter	ملکی چٹھہ
inoculation	ترومنائون، انجکشن کرن (بیمار نش محفوظ تھون)
input	ضوری جڑ، مولومات
inquiry	پوچھ تاجھ
insert	تراؤن، برن، جوڑن
insight	بصیرت
inspect	جانچ پڑتال
inspector	انسپیکٹر
instability	عدم پایداری، ڈبجھ
installation	تسیب کرن، قیام کرن
instalment	قسط
instigate	بیس دین، اکساؤن
instigation	اکساہٹ
institute	ابداء
instruction	ہدایت
instrument	آلہ تحریر
insubordination	حکم عدولی
insurance	بیمہ
insure	بیمہ کرن
integral	اڑمتین، بے جوڑ
integration	رلاؤن، جوڑن
integrity	سالمیت، ہزر
intelligible	قابل فہم، فکرہ ترن لایق
intensive	شدید، زوردار
intent	ارادہ، نیت
interaction	ویزار بدلی، کتھ باتھ، رابطہ
inter alia	امہ علاوہ اتھ ستر ستر

inter-departmental	بین محکمہ جاتی / محکمہ اندر مہمکن پانہ و آئی
interest	سؤء، مفاد
interfere	مداخلت
interim	عبوری، عارضی
interim order	عبوری حکم
interim relief	عبوری راحت
interim report	عبوری رپورٹ
intermediate	درمیانی، انٹرمیڈیٹ
intermediate college	انٹرمیڈیٹ کالج
intern	زیر ترتیب و و میدوار
internal	اندرونی، پچن
international law	بین الاقوامی قانون
internship	ترتیب، انٹرن شپ
interpolation	قلم زنی، قلم تراش
interpretation	تأویل، تشریح
interrogate	پوچھتاچھ، پرژگا کر کرنی
interrupt	روکاؤن، مداخلت کرنی
interruption	مداخلت، روکاؤٹھ
inter se	پانہ و آئی
intervene	مداخلت، متز ووتھن
intervention	مداخلت کرنی
interview	انٹرویو، سمکھن
interviewee	انٹرویو و و میدوار / ایس انٹرویو کر نہ بیہ
interviewer	انٹرویو کر ن وول
intimate	اطلاع دین، وڈن
intimation	اطلاع
intimidation	ڈنر ر اؤن، کھوژ ناؤن
intolerance	ھمبر نہ آسن، بے صبر آسن
intoxication	نشہ
intricacy	پچیدہ، کھڑی دار

intricate	کھڑی دار
introduce	پیش کرنا، زان کرنا، رلاؤن
introduction	زان پچھان
invalid	ناجاہیز، غیر قانونی، نہ چلوان
invalidity	عدم جواز
invariably	اکثر، عام پائھی
investigation	تفتیش، جانچ پڑتال
investment	سرمایہ کاری
invitation	دعوت
involuntary	رضا کارانہ، مرضی سان، پندہ مرضی
involved	ملوث، شامل
ipso facto	پاؤنی پانے
ipso jure	قانونن
irrational	بے ترک، غیر منطقی
irrecoverable	لا وصول
irregular	بے قاعدہ
irrelevant	نامناسب، نابرابر، نامعقول
irresponsible	غائر ذمہ دار
irrevocable	اٹل
issue	1۔ جاری کرنا، موزون، روانہ کرنا 2۔ اولاد، سنتان، بشر
issue order	حکم کڈنا، حکم جاری کرنا
issue price	قیمت فروخت
item	چیز، ممد
J	
job	نوکاری، کام
job description	نوکاری رکامہ تفصیل
job evaluation	کامہ ہنر سام
job freeze	بھرتی بند
job hunting	نوکاری زمانڈنی
jobless	بے روزگار، بے کار

job-oriented	روزگار سستی وابسته
job rotation	نوکری چکر
job satisfaction	کامہ اطمینان
job security	کامہ تحفظ
job specification	کامہ وضاحت
job study	کامہ مطالعہ
job work	فکر کام، زہوت کام
join	۔ جو این، نوکری شور و کراہی، کام لاگنی
joining date	جوین کر تک تاریخ
joining pay	ابتدائی تنخواہ
joining period	ہیلتہ، جوین کر تک مدت
joining report	جوینکر تک رپورٹ
joining time	جوینکر تک وقت
joint	مُشتر کہ، رلیتھ
joint account	مُشتر کہ کھاتہ، سز و دکھاتہ
joint cadre	مُشتر کہ کارڈر
joint committee	مُشتر کہ کمیٹی
joint consultative committee	مُشتر کہ صلاح کار کمیٹی
joint family	مُشتر کہ عیال، بوڈگر
jointly	مُشتر کہ پانٹھی، یکہ وٹھ
jointly and severally	یکہ وٹھ تہ ہون ہون
joint ownership	مُشتر کہ ملکیت
joint responsibility	مُشتر کہ ذمہ داری
joint venture	مُشتر کہ کار
journal	جریدہ
journalist	صحافی، اخبار وول
judgement	فأصلہ، بوزشوز
judicial	عدالتی
judicial custody	عدالتی حراست
judicial enquiry	عدالتی تحقیقات

judicial notice	عدالتی نسیمن
judicial power	عدالتی اختیار
judicial service	عدلیہ، بیچ نوکری، عدلیہ بیچ، ملازمتھ، جوڈیشل سروس
judiciary	عدلیہ
judicious	منصفانہ
junior administrative grade	منظمی گریڈ جونیر کلرک
junior clerk	جونیر کلرک، لوکٹ، روستھ کلرک
junior in rank	عہدہ کئی لوکٹ
juniority	لوکٹ عہدہ وائس
junior most	سارنہ جونیر
junior scale	جونیر سکیل
jurisdiction	کامہ ہند حد، کامہ ہند دائرہ
just	منصفانہ، جائز
justice	انصاف
justiciable	قابل انصاف، جائز آسن
justify	جواز دین، جو آ زیت وئی
K	
key	گنر، مؤل، اہم
keynote address	کلیدی خطبہ، اہم تقریر، خاص تقریر
kick back	کوڑھ، رشوہ
kin	آشناو
kith and kin	آشناو و آشناو
know-how	زانکاری
knowledgeable	زانکار
L	
labour	مستھ، کام کرن و آلی، کامگار
labour charges	مزدوری، اجرتھ
labour contract	کامہ ہند ٹھیکہ
labour court	لیبر عدالتھ
labour dispute	لیبر تناز
labour force	کامگار قوت
labour laws	لیبر قانون

labour room	لیبر روم، پرسن کمرہ
labour union	مزدور یونین، لیبر یونین
labour welfare	موزورن ہتس بہبودی
land aquisition	زمین حاصل کرنی
land mark	بہ نشان
land records	زمینہ ہند رکارڈ
land reforms	زرعی سدھار، زرعی اصلاحات
land revenue	مال گڈ آری، معاملہ، مالیہ
land settlement	بندوبست
land tenure	پشد آری، وڈ آری
land use certificate	زمین استمالج سند
Lapse	غلطی، گڈرن
large scale	بڈس، پیمانہ پٹھ
last date	آخری تاریخ
lasting	مستقل، پادار
lastly	آخری پٹھ، پٹس
last payment	آخری اداگی، ہتم قسط
late	تھیری، سورگواس، مرحوم
late attendance statement	تھیری ٹینک تفصیل
late duty	تھیرتام ڈیوٹی
late payment	تآخرسان اداگی، ہتم اداگی
latest	تازہ ترین
laudable	تعریفس لایق
launch	شرع کرن
law	قونون
law and order	نظم و ضبط
law breaker	قونون پھڑاون وول
law court (=court of law)	عدالت
lawsuit	مقدمہ
lawyer	وکیل

layoff	ملازم، نوکری نشہ کڈن، چھٹی کرنی
layout	نقشہ، خاکہ
leader	لیڈر، رہنما
leadership quality	رہنمائی کرکئی گون، لیڈری و صفت
leaflet	پرچہ، اشتہار پرچہ
leak	شگاف کزن، نیرتھ نزلن
leap year	تھہ ڈرلس منز (فروری ریتس منز) 29 دودھ چھ آسان
learning	ہیچھن
lease	پس پیٹھ ڈن
leased accommodation	پس پیٹھ حاصل کر ہر روزن جاے
leasehold	پس پیٹھ ہر ہر جاے
leaseholder	پس دار
leasing	پس پیٹھ دین
leave	چھٹی
leave encashment	چھٹی لہ نقدی ادائیگی
leave salary	چھٹی بند تنخواہ
leave vacancy	رونخت چھٹی خالی اسمی پٹھ تعیناتی
leave without pay	بلا تنخواہ، رونخت
leave with pay	تنخواہ سان رونخت
lecture hall	لیکچر ہال
ledger	کھاتہ
ledger balance	کھاتہ بقایا
legacy	پر میرا، ریوایتھ
legal	قانونی
legality	قانونی جواز
legalization	قانونیہ مطابق بناؤن
legally	قانونی طور
legal practice	وکالتھ
legatee	وصیتھ دار
legible	یہ پر سہہ ہیہ، صاف لکھائی

legislative	قانون ساز
legislative business	قانونی کام، قانون سازی، بہتر کام
legislature	قانون سازی
legitimacy	جواز، جو ازیتھ
legitimate	جائز
leisure	فرصتھ، آرام
leniency	نرمی
lessee	پٹہ دار
letter	چٹھ، ابھتر
letter pad	لیٹر پیڈ
levy	محصول
liability	دین داری، ذمہ داری
liable	دین دار، ذمہ دار
liaison	رابطہ
library	لاہیری
licence	لائسنس، اجازتھ
licence holder	لائسنس، الاستہ وول
licensed	لیس لائسنس، مجوز آسہ
licensee	لائسنس آسن وول
lien	لین، حق واپسی
life certificate	زندہ، آسٹج سند
limit	حد، انتہا
limitation	حد، وق
limited	لمیٹڈ
limited concern	لمیٹڈ کمپنی
limited liability	محدود ذمہ داری
limited tender	محدود ٹنڈر
link	کڑی، جوڑ، رابطہ، واٹھ
linked	وابستہ، جوڑتھ
linked file	وابستہ مثل
link language	رابطہ زبان
liquidated damages	کمپنی بند کر تک نوقصان

liquidation	کمپنی بند کرنا کارروائی
liquidator	کمپنی بند کرنا کارروائی کرن وال شخص
list	فہرس
list of business	کامہ ہند فہرس
literate	پورمت لہ کھمت
litigant	مقدمہ باز، مقدمہ کرن وول، مدعی
litigation	مقدمہ بازی، مقدمہ
livery allowance	وردی الاونس
livestock	چارو اے، گڑ لگن
living standard	زندگی ہند معیار
living wage	زندگی بسر کرنا موزوری، روزگار
loading	مال بزن، لد اے
loan	قرض
loaner	قرضدار، لائر
loaning department	قرض دینہ وول محکمہ، بنیادی محکمہ
lobby	لابی، طرف
lobbying	ترغیب کاری، حمایت جٹاونی
lock in period	پابندی ہندوق
lock out	قلف کزن، تالہ بندی
locus standi	بوز نک حق، حیثیت
lodging	روزن جاے
log book	لاگ بک
logic	منطق، نظریہ
logo	لوگو
long distance call	دو درواز چ کال (ٹیلی فون)
long hand	لکھاوٹ
lot	لاٹ، ڈیر، کھپ
lower	نم
lowest rate	کم کھوتہ کم شرح
low grade	لوکٹ درجہ
loyal	دوفا دار

lump sum	مجموعی، اٹھ سٹھ
lumpsum grant	اٹھ سٹھ گرانٹ، کل گرانٹ
M	
machinery	مشینری، انتظامیہ
machinery of government	سرکاری انتظامیہ
magazine	میگزین
mailing list	خط و کتابت فہرست، ایڈرس فہرست
maintain	رکھ رکھاؤ
maintenance	مرمت، رکھ رکھاؤ
major	1- بوڈ، بالغ، اہم، 2- میجر
majority	اکثریت
major works	بچہ بچہ کامہ
make up	کی پڑ کرنی، کمی پڑ کرنی
maladjustment	نقص دارستر، ناقص انتظام
maladministration	ناقص انتظامیہ
malafide	بد نیت، ناکار سوچ
malice	بغض، نفرت، بد نیتی
malpractice	کو کرم
maltreatment	بد سلوک
management	منظمی انتظامیہ سرانجام،
manager	مینجر
mandate	درگاہ، منڈیٹ
mandatory	اُز می
mandays	کامہ دوہ
manhours	کامہ پہر، کامہ گھنٹہ
manifesto	منشور
manipulation	استعمال، جوڑ توڑ
manoeuvre	داو پیچ، تلن گری
manpower	افراد قوت
man-to-man ranking	انسانی زمرہ بندی

manual	قواعدہ کتاب، جسمانی
manual labour	جسمانی مشقت کرن دول، موزور
manufacture	تیار کرن، بناؤن
manufacturer	بناؤن دول
manuscript	قلمی نسخہ
map	نقشہ
margin	حاشیہ، گنجائش
marginal	لوٹ، کم پایہ، وسی پایہ
marital status	نیتھر پتیہ
marketing	کٹن دین
marketing economy	بازری معیشت
mark	نشانیہ
marksheet	مارکس شیٹ، نمبر پرچہ
marks obtained	آنی میتی نمبر
mass	عوام، اجتماع، بارہ
mass communication	عوامی موصلات، عوامی پرژار
mass consumption	عوامی باراستعمال
mass immunization	عوامی ترو بناؤن، بارہ پیناس پیٹھ، چاکو کزن
mass media	عوامی پرژار وسیلہ
mass production	بہاؤ داوار
master file	ماسٹر فائل، بنیادی مشل
master of ceremonies	تقریب مآہر، اہتمامی
master plan	ماسٹر پلان، بوڈ منصوبہ
matching grant	برابر گرانٹ
material	مواد
maternity	زچگی
maternity leave	زچگی چھٹی، پرسن چھٹی
matriculate	میٹرک رڈ ہمہ پاس
matrimonial	کھاندرک، نیتھر ک
mature	بالغ، مدت پورہ پدن

maturity date	مدت پوره گرمٹک تاریخ
maximum	جادہ کھوتہ جادہ
means	وسیلہ، تھہ، طریقہ
measure	میژن، ماپ
measurement	ماپ، ناپ
measures	اقدام ووپاے
mechanic	مستری
mechanical	مکتیکی
mechanism	طریقہ کار
media	وسیلہ
mediate	درمیانہ داری، شرم یاری
medical	میڈیکل، طبی، دوائی
medical benefit	طبی مراعات، طبہ فایہ
medical examination	ڈاکٹر جانچ، ڈاکٹری امتحان
medico-legal	طبی قانونی
medium	ذریعہ
meeting in camera	بند کمرچ میٹنگ
member	میمبر، رکن
memo	میمو، دفتری نوٹس، یاد دہانی نوٹس
memorial	یادگار
mental ability	دویماعنی صلاحیت، گاہہ جار
menu	مینو، کھین چین چیز
merger	رلاڈن
merit	گون، صلاحیت
merit list	صلاحیت فہرست
meritorious	گونوان، قابل، قابل تاریف
merits	وصف، گرن، اوصاف، گون
merit scholarship	وصف وظیفہ، اہلیت وظیفہ
message	پانام
method	طریقہ
methodology	طور طریقہ، لائحہ عمل

metropolitan area	بڑشہرک علاقہ
middle income group	درمیانی آمدنی طبقہ
middleman	درمیانہ دار، دلال
midwifery	واریخی، داسے
migrant	ماگیرنٹ
mileage	میل دؤری، فائدہ
militancy	دہشت گردی، خونخواری
millennium	مائیل
miniature	لو رکت، وو رکت پینٹنگ
minimum	کم کھوتہ، کم
mining	کان کنی، خان کھنن
ministerial	وزارتی
ministry	وزارتھ
minor	نابالغ، معمولی
minority	اقلیت
minor works	الوکچہ کامیہ، معمولی کامیہ
minutes	منٹھ، کتہ میٹنگ، ہندری فاصلہ
misappropriation	خورد برد
misbehaviour	بدسلوکی، غلط وطیرہ
miscarriage of justice	انصاف نہ کرن
miscellaneous	متفرقہ
mischievous	شرارتھ
misclassification	غلط زمرہ بندی
misconduct	غلط وطیرہ
mislead	گمراہ کرن
mismanagement	بدانتظامی
misrepresentation	غلط بیانی، غلط ترجمانی
misstatement of facts	غلط حقیقت باونی، جھپترن ہند غلط نہرست
misunderstanding	غلط فہمی
misuse	بے جا استعمال، غلط استعمال
mixed economy	مسلہ شہ معیشت
mob	جہوم، بھر

mobile	موبائل، گشتی، پھیرن تھور
mobility	تبدیلی صلاحیت، تغیر، پھیرن تھور، صلاحیت، جاے بدلاؤ، صلاحیت
mode	نمونہ، ماڈل
model	پیش کار
moderator	ترمیم
modification	کام کر تک طریقہ
modus operandi	
monetary grant	مائی گرانٹ، نقد امداد
money	پونہ، نقدی، رقم، ضرب
monitor	1-نگرانی کرنی، 2-مانیٹر
monogamy	اکوے نیتھر
monogram	مونوگرام
monopoly	ایسجارہ داری
monotony	تنگ کرن وول معمول
monthly tour diary	رہتہ وار دورہ ڈائری
month to month	رہتہ وار، رہتہ وار، رہتہ پتہ رہتہ
moral	تخلاتی
morale	حوصلہ
moral turpitude	تخلاتی گراؤٹھ
moratorium	بندش، ٹاک
mortality	مرکب شرح
mortgage	گرو تھون
most confidential	سٹھاہ خفیہ، سٹھاہ، رازدار
mother tongue	ماچہ زیو، مادری زبان
motion	تحریک
motion study	تحریک سام
motivation	ترغیب
motive	مقصد، نیت، ارادہ
motto	مقصد، ماٹو، منزل، مقصود
mouthpiece	ترجمان، نمائندہ اخبار، نمائندہ دلیل
movable	منقولہ، یس اور یوریکٹا دنہ پتھہ ہیکہ
move	کوشش، تحریک

movement	حرکت، جنبش
multifarious (duties)	«واریایہ پہلو دار، وار ہاہہ بٹھل»
multipurpose	واریایہ مقصد وول
municipal tax	میو پاپی ٹیکس
museum	عجاب گھر
muster roll	حاضری رجسٹر
mutation	تبدیلی، حیثیت بدلاونی
mutatis mutandis	حسب ضرورت تھ تبدیلی سان
mutual understanding	باہمی سوچھ بوجھ، باہمی مفاہمتھ
N	
name card	ناو کارڈ
narcotic	منشیات
narrative apporaisal	تفصیلی بیانی
narrator	تفصیل باوک، بولن وول
nation	قوم
national	قومی
nationalism	قوم پرستی
nationality	قومیت
nationalization	قومی ملکیت بناون
national language	قومی زبان
national savings certificate	قومی بچت سرٹیفیکٹ
native	اصلی بسکین، باشندہ
natural	تودرتی، اصلی
naturalization	رکنیت دنی، قومی باشندہ بناون
naval force	سمندری فوج
navigable	قابل آبی راگوار آری
navigation	آبی راگوار آری
nayes	نہ، نکار، نکار کرن واکر
necessary action	ضروری کاروای
needful	ضروری
negative	منفی

neglect	مشراؤن، لاپرواہی
negligence	لاپرواہی
negligible	سہٹھاکم
negotiability	کتھ باتھ کرنج صلاحیت
negotiable instrument	بنائے کتھ باتھ
negotiation	کتھ باتھ
negotiator	کتھ باتھ کرن وول
nepotism	کنبہ پری
net	1۔ خالص، کُل، 2۔ زال
net investment	خالص سرمایہ کاری، کُل سرمایہ کاری
neutral	غائر جانبدار
news	خبر
newsletter	خبر نامہ
newspaper	اخبار
news reader	نیوز ریڈر، خبر پرن وول، خبر بوز نادان وول
next of kin	لواحق، نزدیکی آشناو
night duty	روت ڈیوتی
nil report	شونیہ رپورٹ
no admission	دأخلہ بند، اثرن منع
no demand certificate	بے باکی سند
nomenclature	نامہ فہرستھ
nominal cost	معمولی لاگتھ
nominal value	معمولی مول، علامتی مول
nominate	نامزد کرن
nomination	نامزدگی
nominee	نامزد
non-age	نابالغ
non-contributory	غیر اشتراکی، حصہ روس
non-essential	غیر ضروری
non-gazetted	نان گزٹڈ
non-interest bearing	بے سود، بے مَور

non-judicial	غائر عدالتی، نیم عدالتی
non-ministrial	غائر وزارتی
non-negotiable	بے کتھ ہاتھ، کتھ پیٹھ نہ کتھ ہاتھ، کتھ ہیکہ
non-official	غائر سرکاری
non-payment	غائر ادائیگی
non-payment certificate	غائر ادائیگی سند
non-practising allowance	پریکٹس بندی الاؤنس
non-recurring expenditure	غائر وقتی خرچہ
non-refundable	بیس نہ واپس تڑ
non-statutory	غائر قانونی
non-taxable income	بے ٹیکس آمدنی، ٹیکس چھ آمدنی
non-technical post	غائر تکنیکی عہدہ، اساسی
non-traditional	غائر ریوایتی
non-verbal communication	کتھ ٹیکس رابطہ، بے کتھ رابطہ
no objection certificate	بے اعتراض سند، اعتراض نہ آئینج سند
no profit, no loss	نفع نقصانہ روس
norm	طریقہ، قاعدہ
normal	معمول، عام، نارمل
no smoking	تموک بندی، تموک چیون منع
notable	خاص، قابل توجہ، اہم
not applicable (N/A)	نا قابل لاگو، نا قابل عمل، عدم عمل
not available (N/A)	عدم دستیاب
note	نوٹ
notice	نوٹس، سمن
noticeable	قابل دھیان، توجہ طلب
notification	نوٹیفیکیشن
notified area	نوٹیفائیڈ ایریا، نامزد علاقہ
noting and drafting	نوٹ ڈرافٹ، نوٹ مسودہ
notional pay	علامتی
not negotiable	کتھ ہاتھ روس، نا قابل کتھ ہاتھ

not negotiable instrument	ناقابل کتھ باتھ طریقہ روتھ / موسودہ
nucleus	مرکز، بیاد، اوندُر
null	باطل
null and void	رد، باطل تہ شنیہ
number	نمبر، تعداد
numbering	نمبر دنی، تعداد ہاڈن
numeral	ہندسہ، اکھ ز تریہ ژور وغیرہ
O	
oath	حلف، قسم
oath of allegiance	وفاداری حلف
oath of office	عہدک حلف
obedience	وفاداری
obituary	تغزیت نامہ، مرگ اخباری اطلاع
object	1۔ چیز، 2۔ اعتراض کرن
objection	اعتراض
objective	مقصد
objects and reasons	مقصد تہ وجوہات
obligatory	لأزی
obscene	فحش، بتلہ
obscene gesture	فحش اشارہ
observer	مبصر، نگران
obsolete	دقیانی، پرون
obstruction	روکاؤٹھ، ٹھور
obvious	نون، صاف، واضح، عیان
occasional	منزری، منزری
occupancy	سکونت، تعیناتی
occupant	بسکسن، روزن وول، قبضہ کرن وول
occupation	پیشہ
occupy	قبضہ کرن
octroi duty	چنگلی
off day	چھٹی دوہ

off duty	وہلہ آسن، موکل آسن، ڈیوٹی پیٹھ نہ آسن
offensive	جآ رہانہ، ناز بیان، نفرت وول، بدبودار
offer	پیش کش، دین، تجویز کرن
offer of appointment	نوکرۃ ہنر پیش کش
office	1۔ دفتر، 2۔ عہدہ
office of profit	فائدہ مندہ عہدہء
official	سرکاری افسر، اہلکار، سرکاری، عہدیدار
officialdom	افرشاہی
official duty	سرکاری کام
officialese	دفتری زبان
official language	سرکاری زبان
officially	سرکاری طور، باضابطہ پآٹھی
official report	سرکاری رپورٹ
official version	سرکاری رپ، سرکارچ کتھ
officiating	قائم مقام
“off the job” training	نوکرۃ تیز، تربیت، کامہ علاوہ تربیت
off the record	ریکارڈ نہر، بلی، ولسے ہی
okay (O.K.; okey)	ٹھیک، ڈرست، صحیح
ombudsman	سرکاری وکیل، عدالتک ترجمان
on account grant	ووڈم گرانٹ، تاسٹھ دنہ آمت
on demand	منگ کر تھ
on duty	ڈیوٹی پیٹھ، کامہ پیٹھ حاضر
one sided	یک طرفہ، اوک طرفک
on line	آن لائن، تازہ، وونی کین، موجودہ ترسیلی
on-special duty	خاص کامہ پیٹھ
on the job training	نوکرۃ دوران تربیت، کامہ دوران تربیت
onus	ذمہ داری
open day	کام کر تک دوہ
open system	کھلہ طریقہ، کھلہ نظام
opening	افتتاح، خالی جاسے، و تھ
opening balance	ابتدائی رقم

opening hours	کھلہ روزنک وقت، بیلہ سمئے
open learning	آزاد تربیت، بے بندش تالیف، بندش پرن
open letter	چھڑ، یلئے چھڑ
open university	بے بندش یونیورسٹی، کھلہ یونیورسٹی
operating cost	لاگتہ، کامہ بنز لاگتہ، کامہ خرچہ
operating staff	کام کرن دول رکام چلاون دول عملہ کاراوا عملہ
operation	آپریشن، کارروای
operative	کارندہ، کرمی
opinion	راے
opposition	مخالفت، مخالف وڈر، مخالف جماتھ
option	بدل تھ، بیا کھ تھ
oral	زبانز زبانز
order	1- حکم، 2- تربیت
order cheque	آڈر چیک، اجراچیک
order of reservation	ریزرویشن ترتیب
ordinance	آرڈی ننس، سرکاری حکم
organization	تنظیم
organization chart	تنظیمی منشور
organizer	منتظم، ستر کرن دول
oriented	(کنہ) کامہ مناسب
original	اصلی، مؤل، ابتدائی، گوڈ بیک
original department	اصلی محکمہ
original sale deed	اصلی بیہ نامہ
ostensible owner	لون مالک
outbreak	پھال، اچانک ووتھن
outfit allowance	وردی الاونس، پلو پوشاک بھتہ
outgoing member	سبکدوش سپڈون ممبر
outgoing file	نہر سوزونی مسئل
outlay	بجٹ رقم مشکھس رقم
outlet	نکاس، بکری مرکز، وان

outline	خاکہ
outlook	نظریہ
out of court	عدالتہنہر
out of date	پُرُون، پرائینومٹ، نہ چلون، پرائن فیشنگ
out of order	بہتھ گومت، خراب گومت
out of print	عدم دستیاب کتاب وغیرہ
out of turn	واررُسٹے
out of turn allotment	واررُسٹے الاٹ کزن
outpost	سرحدی چوک
output	پاداوار، حاصل
outright purchase	یک مُشت خرچہ
outsource	پیش اتھ کام کرناونی، وڈ پیٹھ
outstanding	بقایا، غائر معمولی، سبھا جان
over age	زیادہ وائس
overall	گلس پیٹھ، کلیم
overall deficit	گاہمگھا، گہمخارہ
overall billing	زیادہ بل بنادنی
overcharge	زیادہ، رُن، زیادہ ہون (رقم)
overdue	یڑکول، واریا کالک پڑا
overestimate	زیاداً نکلون
overhead charge	میٹھی وائی خرچہ
overlapping	میٹھی ترن، نظر انداز کرن، حدہ ہون
overriding priority	سیٹھاہ ترجیح وئی
over-rule	فاصلہ بدلاون، بدل فاصلہ کزن
oversight	نظر ڈلن، نظر نہ سن، غلطی سپدنی، نظر انداز سپدن
overtime pay	زیادہ وقتی کامہ تنخواہ، راجرتھ
overvaluation	زیادہ مولہ آنکون
ownership	ملکیت
P	
package	پیکج، کلیم، مزبوط

package deal	گھبسودا
packing and marking	گنڈن پین نشانہ تھاؤن
packing list	گنڈن سامانک فہرست
pact	معاہدہ
paid	ادا کورمٹ، چکو وقت، دُمت
paid up capital	لوگت سرمایہ
pamphlet	لوگت اشتہار، اشتہار پرچہ
panel	پینل، کمیٹی
paper	1- کاغذ، 2- دستاویز، 3- اخبار، 4- سوالنامہ
para	پیرا
paramount	عظیم، تھوڈ
parent	1- ب موم، 2- مؤل، اصلی
parental	حالس ماجہ ہند، اصلی
parent office	مؤل دفتر
par excellence	سینٹھاہ بہتر
pari passu	برابر، برابر، ہُوے رفقار
parity	برابری، مساوت
parliament	پارلیمنٹ
part	1- حصہ، 2- پُرزہ
part file	اڈمشل
partial	طرفدار، رائے کرن وول
participate	شرکت کرنی
particular	خاص، مخصوص
particulars	تفصیل
partition	1- چچہ برن، 2- حصہ بنائے
partner	شریک
partnership deed	شریکتک تحریر
part payment	اُزادائیگی
part-time	جُزوقتی
party	1- پارٹی، جماعتھ، 2- دور، 3- دعوتھ، سال

par value	مولہ حساب / حسابہ
pass	پاس، پاس کزن، ٹرن
passage	وتھ، کوچہ، گزر
password	پاس ورڈ
patent	پٹنٹ، رجسٹر کرنے آمت ناو
patron	سرپرست
pay	تنخواہ، اجرتھ، طلب
pay bill	تنخواہ بل
pay certificate	تنخواہ سند
pay day	تنخواہ دوہ، سنا نکر اتھ
payee	لیس دنہ پیہ
payer	دنہ وول
payment	ادا گی
pay off	نکھ والن، دین
pay order	ادا گی حکم
pay roll	حاضری رجسٹر، تنخواہ رجسٹر
pay scale	تنخواہ سکیل
pecuniary	پونسک، رقمک، روپین بنت
penal	تعزیراتی، پینل
penal code	تعزیراتی دفعہء
penal interest	ہر جانہ رقم، جرمانک سود
penalize	جرمانہ کزن، ڈنڈ دین
penalty	جرمانہ، ڈنڈ
pending	ملتوی، فاصلہ طلب
pen down strike	کام نہ کرنک ہڑتال، کام چھوڑ ہڑتال
pension	پینشن
pensionable	قابل پینشن
pensioner	پینشن بنہ وول
pension scheme	پینشن سکیم
per annum	پر تھہ وریہ، وہرہ

per bearer	دستی
per capita (=per head)	اوسط
percent	فیصد / فیصدی
perennial	لگاتار
preferential purchase	ترجیحی سودا
perform	کارکردگی باپونی، کام کرنی
performance	کارکردگی
period	مدت، وقت، وکھ
periodical	رییہ وار جریده / میگزین
period under review	سام وکھ
perjury	تعلط بیانی، اُپز بیان
perks	اُجرتھ
permanent	مستقل
per mensem	پر ہتھ رییہ وار، ماہوار
permissible	یمسک اجازت آب، قانونی، قانونہ مطابق، درگاہ وول
permission	اجازت
permit	پر مٹ، اجازت نامہ، اجازت دین
permitted	اجازت دہنت / یافتہ
perpetual	لگاتار، پر ہتھ ووز
perpetuity	پر ہتھ ووتک
perquisites (=perks)	پیشی وانی اُجرتھ
personal	ذاتی
personal assets	ذاتی اثاثہ
personal bond	ذاتی بانڈ / ذاتی چمکھ
personality	شخصیت
persona non grata	غاًر ضروری شخص، ناپسندیدہ نفر
personnel	عملہ
personnel policy	عملہ پاسی
perspective	نظریہ
persuasion	مائل کرن، مانی راؤن
pertinent	مناسب، معقول

perusal	دیکھنا، کاروائی کرنی
petition	عرضی
petitioner	عرضی دینے والے، عرضمد
phase	مرحلہ
photograph	فوٹو گراف، تصویر
photostat	مشینی نقل، فوٹو اسٹیٹ
physical checking	سامانہ جانچ
physical defect	جسمانی نقص
physical education	جسمانی تالیف
physically handicapped	جسمانی طور ناچرہ
physical verification	جسمانی پڑتال
piecemeal	اوڈ اوڈ کر تھ، رٹ رٹ
piece rate	چیز حسابہ
pilgrim	یاत्री
pilot programme	نمونک پروگرام
PIN (postal index number)	پین، ڈاکخانہ نمبر
placement service	بھرتی سروس
place of birth	زینہ جاے
place of work	کامہ شہر جاے
plaintiff	مدعی
plan	منصوبہ
planning	منصوبہ، منصوبہ بناؤن
plant	1- کارخانہ 2- گل
player	کھلاڑی، بجاون وول
plea	وکیل
Pleader	پلیڈر، وکیل
plebiscite	راے شماری
pledge	وعدہ کرن، گروی تھون
plenary session	کھلہ اجلاس
plenipotentiary	لیس افسر پور تھنیا آسہ، باتھنیا رافسر

plinth area	بُن، بُنیاد
policy	پالیسی
political activity	سیاسی سرگرمی
poll	ووٹ تراؤن
pollution	آلودگی، کثافت
political	سیاسی
pool	پول
portfolio (of a minister)	محکمہ
position	حالت، پتہ، جگہ
positive	ٹھوس، پُر اعتماد، مثبت
post	عہدہ، ڈاک، چوکی، مرکز
post-dated	اصل تاریخ پتہ، پتہ متاخر، تاریخ
post-facto sanction	کام پور، کرنہ پتہ دینا، امت اجازتھ/کام کرتھ
post-graduate	منظوری
posthumous	مرنے پتہ
posting	پوسٹنگ، تقرری، تعیناتی
post mortem examination	پوسٹ ماٹم جانچ
postpone	ملتی کزن، تھون
postscript (P.S.)	یاد دہانی
power	طاقت، قوت، درگاہ، اختیار
power of attorney	موجودتارنامہ
practicable	قابل عمل، کزن لایق
practice	عمل، مشق، تجربہ
pre-audit	آڈیٹہ، برونہ، برونہ
precaution	احتیاط، جس
precedent	مثال
precis	خاکہ، مومضہ لیکھ
precise	برابر، بالکل، صحیح پانھی، اصلی
preclude	روکاؤن
preconception	گوڈہ تصور
predecessor	پیش رو، برونہ، برونہ

predominant	غالب
preface	پیش لفظ
prefer	ترجیح دینی
prejudice	تعصب، رائے کرنی
preliminary	ابتدائی
premature	وقتہ بروٹھی
premises	احاطہ، وحاطہ
premium	قسط، بیمہ قسط
prepaid	پونسیہ برتھ
prepaid card	پونسیہ برتھ کارڈ
pre-planned	گوڈے سوچن رگوڈے سوچت
prepone	بڑوٹھائن، گوڈے کران
pre-receipted bill	رسید پیتھ بل
prerogative	اختیار، دسگاہ، مجازی
prescribe	تجویز کرنی، نسخہ لیکھن
prescribed	تجویز کورمٹ
prescribed form	تجویز شدہ صورتھ، ہاونہ آہرہ صورتھ، تجویز فارم
presentation	پیش کاری
preside	صدرتھ کرنی
president	صدر، راشٹری پتی
press	1- اخبار، 2- پرنٹنگ پریس، چھاپ خانہ
press copy	چھاپ کاپی
press gallery	پریس گیلری، صحافین ہندہ پہنچ جاے
presumed	مانیہ آمت، خیال کرنہ آمت
presumptive pay	اندازن تنخواہ
presupposed	ہ زانیہ آمت، گوڈے سوچت
pretext	بیانہ، ہیلہ
prevail	حاوی سپدن، مانی راؤن
prevent	روکاؤن، بچاؤن
prevention	احتیاط، روک تھام

preventive	احتیاطی
price fluctuation (=price movements)	نہرکن ہنزکھسوس، دروگن شروگن
pricing	نیرخ گنڈن رنیرخ طے کزن
prima facie	بظاہر، سرسری
primarily	بُنیادی طور
primary	1- بُنیادی 2- پراہری
primary receipt	بُنیادی رسید
principal	پرنسپل، مائلک، مؤل سرمایہ
principal debtor	اصلی قرضدار
printer	پرنٹر، چھاپن وول
printing	چھاپن
prior indication	گوڈ اشارہ
priority grading	ترجیح زمرہ بندی
prison	جیل، قاعدخانہ
prisoner	قیدی
privacy	ایکانٹ، تمہائی، مداخلتہ رس
private and confidential	ذاتی، نجی، پرايوٹ
privilege	مراعات، خاص رعایت
privilege committee	مراعات کمیٹی
prize	بینامیہ، شتاباشی
probability	امکان
probate	وصیتھ نامیہ نقل رتصدیق
probation	پروبیشن، پرکھ، آزمائش
probationary	آزمائشی
probationer	زیر آزمائشی
probe	چھان بین
procedural rules	قاعدہ قونون
procedure	قاعدہ
proceedings	کاروآی [میننگ شیراجلاس سچ]
process	عمل، طریقہ

processing	پروسسنگ، کام چالوتھونی، کام ویتراونی / عملی وینی
procession	جلوس
proclaim	دعویٰ کزن، اعلان کزن
proclamation	اعلان نامہ
procurement	خوشتریدی / وصولی
product	پا داوار، چیز
production	پا داوار، فعل
profession	پیشہ / کام
professional achievement	پیشہ وارانہ ارتھ
proficiency certificate	مہارتی سند
profile	تفصیل
profit	نفع
programme	پروگرام
programme schedule	پروگرام تفصیل
programming	پروگرام کزن / بناؤن
progress	ترقی، پیش قدمی
progressive	ترقی پسند
prohibited	منع کو رسمت
prohibited area	بند علاقہ، منع علاقہ
prohibition	نشہ بندی
prohibitory order	حکم بندی
project	حکم انتہائی
projection	پروجیکٹ
prominent	پیش کزن، ہاؤن، اندازہ کزن
promise	سر کردہ
promissory note (pronote)	وعدہ، وعدہ کزن
promote	وعدہ پتر، روقیہ
promoter	ترقی دنی، بڑاؤن، شروع کزن
promotion	بڑاؤن وول، شروع کرن وول
prompt	ترقی

promulgate	ؤژھ سان، نوری
pronounce	نأفند کزن
pronouncement	حکم جاری کزن، حکم بوز ناؤن
proof	1- شوت 2- پروف
proof of despatch	سوزنک شوت
proof reading	غلطی کڈنی، لیکچرمت پرن، پروف پرن
propagate	پرژار کزن، عام کزن، مشتہر کرن
propagation	پرژار
proper	مناسب
property	جایداد
proposal	تجویز
propose	تجویز کزن
propound	پیش کزن، تجویز کزن، عدالتی تصدیق کزن
proprietary	مأ لکائیم
propriety	گاٹہ جار
pro-rata	کامہ حسابہ
pro-rata quota	کامہ حسابہ کوٹا
prorogue	برخواست کزن
pros and cons	پتہ بروتہ، دچھن، نفع نقصان
proscribe	تجویز کزن
prosecution	مقدمہ چلاؤن
prospectus	امکان، پروپیکٹس
protempore appointment	عارضی تقرری
protocol	پروٹوکول، مہمان نوازی
prove	ثابت کزن
provided	بشرطیکہ
provident fund	پراوڈنٹ فنڈ
provision	گنجائش، انتظام
provisional	عارضی
provisional list	عارضی فہرست
proviso	شرط

proximity	قرايتھ، نزديكى
proxy	كائسہ بدل، نمايدہ گي
public	1- عوام، لوکھ، 2- پبلڪ، سرکار
publication	چھاوتھ کتاب
public duty	سرکاري ڈيوٹی
public interest litigation (PIL)	عوامی مفاد مقدمہ
publicity	پرچار
publish	چھاوَن، شائع کَرَن
punctual	وقتک پابند
punishment	سزا
purchase	خرید، مُل، بیون
purely temporary	خالص عارضی
purpose	مقصد
pursue	پتہ روژن، کَام کرناؤنڈر
pursuit	کَام کار، کھوج
purview	دایرہ، کلمہ ہند دایرہ
put up	پیش کَرَن
put-up slip	پیش پرچہ
Q	
qualification	قابلیت، اہلیت
qualified candidate	اہل و و میدوار
qualify	پاس کَرَن
qualifying examination	اہلیت امتحان
qualifying test	اہلیت امتحان رٹسٹ
qualitative techniques	وصفی تکنیک
quality	معیار، قسم
quality control	کوالٹی کنٹرول، معیاری کنٹرول، معیارک کنٹرول
quantity	تعداد
quarantine leave	تنہای چٹھی
quarterly	تریہ ریٹہ وار، سہ ماہی
quash	رد کَرَن، منسوخ کَرَن

quasi	نہم
quasi-permanency	نہم مستغلی
query	پڑہن، سوالیہ نشان
question	سوال
questionable	سوالیہ، قابل اعتراض، شک آور
question hour	سوالن ہندوقفہ
questionnaire	سوالنامہ
quit	تراؤن
quorum	کورم، ضروری تعداد
quota	کوٹا
quotation	کوٹیشن، بھاو، در
quote	حوالہ دین، شرح دین، نیرخ نون
R	
race	دور، مان مان
racial discrimination	نسلی امتیاز
rack	ریک، الماری
raid	چھاپہ تراؤن
railway	ریلوے
raise (pay)	کھارن، بڑاؤن (تنخواہ)
random	بے ترتیب، بلا سونچھ سمجھ
random sampling	بے ترتیب نمونہ
range	1- دائرہ، حد، 2- رینج
rank	رتبہ، عہدہ، درجہ، اُلان
rank and file	عام لکھ، یکہ قوت
ranking	زمرہ بندی
rapid action force (RAF)	پھرتی کاروای فوج
rare	دُر لہجہ، نادر
rash	تیز، اُتاوولی
ratable value	قابل ٹیکس مول
rate	شرح، در
rate contract	شرح ٹھیکہ
rate list	نیرخنامہ

ratification	تصدیق کرن
rating	درجہ بندی
ratio	تنوُوب
ration	راشن
rational	منطقی
rationalization	آسان رُہل بنائون
ration allowance	راشن الاؤنس
raw material	خام مواد
raw product	خام سامانہ، خام یادوار، ناصاف یادوار
reaction	رد عمل
reading	پُرن
readjust	نوبوزشوز، دوبارہ ورتاوس لاگن
ready-made plan	تیس تیار منصوبہ
ready reckoner	تیس تیار جوڑ توڑ
real	حقیقی
real earning	صح کمائے، صح آمدنی
real estate	جائے جاہد، مکان ہندشوبہ، مکانات
reality	حقیقت
realization	1۔ وصولی 2۔ احساس سدن
realize	1۔ وصول کرن 2۔ محسوس کرن، احساس سدن
reappointment	دوبارہ نوکری لاگن
reappropriation	تخمینہ جات
reason	وجہ، بنا، ترک
reassessment	نوبوزشوز، نوہ سام تین
rebate	رعایت، چھوٹ
recall	واپس آئن، واپس بلاؤن، پوت آلودین
recede	وُسن، کم گُھٹن، پتھ نیرن
receipt	رُٹن، ڈاک، رسید دین
receipt book	ڈاک بک، رسید بک
receipts and disbursements	ہیون دین، رُٹن تہ دین، اور تہ یورہء
receive	1۔ رُٹن 2۔ استقبال کرن وول

receiver	(ٹیلیفونک) زیسیور
recent	حالیه، مالک، نو، تازہ
reception	استقبالیہ، رسیپشن
receptive	مانن رتھن وول
recess	رسپ، وقفہ، چھٹی مدت
recipient	رٹن وول
reciprocal	پائید و آڈر
reciprocal demand	پاندو آئی ہنگ
reciprocate	واپس کزن، یوریتنی کزن
reciprocity	پاندو آئی ویبار
reckless	لا پرواہہ، ٹکڑن، تسلیم کزن
reckon	شمارس گندوی سروں نوکری
reckonable service	زمین قابل کاشت بناونی، واپس حاصل کزن، قابل استعمال بناون
reclamation	تسلیم کزن، ماٹن، پرزناون
recognition	تسلیم کورنٹ، پرزناونٹ، ہونٹ
recognized	یاد پان
recollect	سفا رش کرنی، تجویز کزن
recommend	سفا رشہ
recommendation	سفا رش چھی
recommendatory letter	کھجوتہ کزن، (حالاتن پتر) میل ملاپ کزن
reconcile	1- مفاہمتہ، صلح 2- حساب کتاب رالاون
reconciliation	دوبارہ سوچ نو نوکری کزن، پیوہ پتر کزن
reconsideration	نو تفکیل، نوہ سروہ بناون
reconstitution	نو تعمیر، نوہ سروہ دوبارہ بناون
reconstruction	مسئل پیوہ بناونی
reconstruction of file	ریکارڈ، درج کزن
record	ریکارڈ
record book	ریکارڈ بک، اندراج رجسٹر
record of service	نوکری ریکارڈ، نوکری تفصیل
recourse	وصول، دستیاب و تھ
recover	وصول کزن، و وگراؤن
recovery	1- وصول، و وگرائے، برآمدی 2- بلن
recreation	تفریح
recruit	1- بھرتی کزن 2- رگروٹھ

recruiting authority	بھرتی حاکم
recruitment	بھرتی
recruitment rules	بھرتی رول / بھرتی قاعدہ
rectification	غلطی سدھار
recurring	مؤجودہ، چلُون
redeem	پنھڑاؤن، حاصل کَرَن
redemption	پنھڑاؤن
redirected	واپس سوڑن، دوبارہ سوڑن
redress	دُستی کرنی، ٹھیک کَرَن، چارہ کَرَن
redressal	چارہ گر
red-tapism	افرشا ہی
reduction	کمی کرنی، چھوٹ
redundant	غائر ضروری
re-employment	دوبارہ تقرری، دوبارہ نوکری لائسن
re-entry	دوبارہ درج رد اُخل کَرَن
refer	سوڑن، حوالہ دُین
reference	حوالہ
referral	یوت سوڑنہ بیج
refixation of pay	تنخواہ نوہ مقرر کَرَن
reform	اصلاح
refrain from	دور روڑن، پرہیز کَرَن
refreshment	ہلکہ کھن چہن، چاے وغیرہ
refund	رقم واپسی
refundable	قابل واپس رقم
refusal	انکار، نکار
refuse	انکار کَرَن، نامنظور کَرَن، نہ مائِن
refused leave	نہ مانہ آمرنا منظور چھٹی
refutation	تردید کَرَن
regard	مائِن، دھیان / خیال تھون
region	نھلہ، علاقہ
regional	علاقائی، نھلک

register	رجسٹر
registered	رجسٹری ذریعہ سوزندہ آمنت
registered office	رجسٹرڈ دفتر
registering authority	رجسٹری کرن وول حاکم
registrtrion fee	رجسٹری فیس
registration form	رجسٹریشن فارم، درج راندرانج فارم
registry	رجسٹری
regret	افسوس ظاہر کرنا
regrouping	نوگروپ بناؤن، دوبارہ سُمن
regular	باقاعدہ، ریگولر
regular cadre	باقاعدہ کا ڈر
regularization	باقاعدہ بناؤن
regular service	قاعدہ سروس
regulations	قاعدہ قوانین
rehabilitation	نورہ سرہ بساؤن، باز آباد کاری
rehearsal	ریہرسل
reimburse	رقم واپس دین
reinstate	بحال کرنا
reiterate	عہد کرنا، عزم کرنا، دوبارہ دُنا، بیہ دُنا
reject	رد کرنا
rejection	نامنظور کرنا، رد کرنی
rejoinder	جواب، بیانیہ صفا کی
relation	رشتہ، آشناوی
relative	اُشیہ ناو
relative valuation	تقویلی مولیہ آنکون
relaxation	ڈیل، ڈبج، نرمی
relaxation of rules	قوانین منہ ڈبج، قوانین نرمی
release	رہائی، اجرا کرنا، واگزار کرنا
release date	اجرا کرناک تاریخ
relevant	مناسب متعلقہ
relevant papers	مناسب متعلقہ دستاویز

reliable	قابل بوری، بھروسہ وول
relief	ریلیف، راحت، امدادی رقم
relief and rehabilitation	ریلیف تہ باز آباد کاری، راحت تہ نوہ سرہ بساون آباد کرن
relief list	ریلیف راحت فہرست
relief works	راحت کامہ، راجتھ کام
relieve	مجر اکرن، بیلہ تراؤن، ذمہ داری نش فارغ کرن
reliever	ریلیور، فارغ کرن وول
relinquishment	دستبرداری، تراؤن
relinquishment of charge	چارچ تراؤن، چارج دین
relocation	بیس جایہ تعینات کرن، تو تعیناتی
reluctance	نہ مانن
remark	ریمارک، خیالہ ہادتھ، تبصرہ
remarks column	باؤڈ کالم
remedial action	دستی تدبیری کارواری
remedial measures	تدبیری اقدام، تدبیر و پاپے
remedial transfer	تدبیری تبدیلی، تدبیری منتقلی
reminder	یاد دہانی
remission	معافی، تراؤن
remit	1۔ رقم سوژن 2۔ معاف کرن
remitee	رقم رٹن وول
remittance	سوژن
remote	دور دراز، غاری گھاٹھ
remote control	رموٹ، رموٹ کنٹرول
removal	ہٹاؤن
remuneration	اُجرتھ، مستنانہ، موزواری
render	دین، وقف کرن، تھون، 2۔ ترجمہ کرن
renewal	تجدید کرن، نوو ہٹاؤن، نوو رپ دین
renewal of demand	منگ دوبارہ کرنی، پیہ منگن
renounce	ترک کرن، تراؤن
renovation	مرمت، شیرن سنبھالن

rent	کرایہ
rented space	کرایہ جگہ
reopening	دوبارہ کھولنا، پتہ شور کزن
reorganization	نوسازی، دوبارہ رولوسرہ بناؤن
reorientation	ویژہ بدلادی، گنہ مناسب بناؤن/موافق بناؤن
repairable	قابل مرمت، مرمتس لایق
repatriate	وطن دیس سوڈن، محکمہ ردفترواپس سوڈن
repatriation of services	نوکرئی رسرویس محکمہ واپس سپرد کرنی
repay	نقد وائس، واپس کزن
repayable	نقد وائس لایق، واپس کزن لایق
repeal	رد کزن، منسوخ کزن
repeat order	دوبارہ آرڈر دین
repetitive work	بیہ پتہ تی کزن، بار بار کرنہ آہتہ کام
replace	بدلاؤن، بدلآ دتھ دین
replacement	بدلاؤن، بدلی
replenishment	پڑتی کرنی
report	رپورٹ
repository	مال خانہ، امبر
representation	1- نمایندگی 2- درخواست
representative	نمائندہ
reprimand	لعن تعین کزن، رعب کزن
reprint	دوبارہ چھاپن
reprisal	آنچھ ہوؤن، بدلہ ہون
reproduce	دوبارہ پیش کزن/پاؤہ کزن
reproduction	نشر زمین، پاؤہ کزن
republic day	یوم جمہوریہ
repudiate	توہناؤن
repugnant	برخلاف برعکس
repurchase	بیہ ہین، واپس ملکی ہون
reputation	مشہوری، شہرت، نیک نامی
requirement	حاجت، ضرورت

requisite	ضروری
requisite information	ضروری زانکاری
requisites	ضروریات
requisition	منگ
requisition form	منگ پرچہ، منگ فارم
requisition slip	منگ پرچی
rescue	بچاؤ، بچاؤن، بچاؤ کزن، بچاؤ تھ اُن
research work	تحقیق کا م
resentment	ناراضگی، اعتراض
reservation	ریزرویشن
reservation fee	ریزرویشن فیس
reservation of post	اسامہ مخصوص ریزرو تھونہ آمنت عوبد
reserve	ریزرو، ریزرو کزن
reserved accommodation	بند رٹھ آٹھر جاے
reserved constituency	ریزرو چنا و حلقہ
reserve price	طے نیرخ
resettlement	بندوبست
reshuffle	ردوبدل
residence	روزنج جاے، گر
resident permit	روزنک پرمٹ / روزنک اجازتھ
resident	روزنول، بسکین
residential	رباشی
residential accommodation	روزنج جاے
residential address	بسنگ پتہ، گریک پتہ
residential quarter	بسنگ کوائر
residuary	پتھ گن رڈ مٹ، بچو مٹ
residuary pension	باقی پنشن
residuary power	باقی اختیار
resignation	استعفی
resist	مزاہمت
resolution	1-قرارداد 2-فصلہ کزن، طے کزن

respectfully	پُرویتقار پُاٹھی، عزت سمان، عزت دار پُاٹھی
respectively	ترتیب وار، وار حسابہ
respondent	مدعالمہ
response	رد عمل
responsibility	ذمہ داری، مہمہ داری
responsible	ذمہ دار
responsive	ذمہ دار آسُن
rest house	ریسٹ ہاؤس، آرام گھر
restore	بحال کُرُن، چالو کُرُن
restraint	رُکاون، حد رُکن
restricted	محدود
restricted leave	محدود چھٹی
restriction	نڈش، ٹھاک
result oriented work	سؤ دمند کام
resume	1۔ بحال کُرُن 2۔ ذاتی تفصیل
resummon	بہ بلاونی، بہ سمن کڈنی
resumption	بحالی
retain	برقرار تھونی، یاد تھون
retention price	طے شدہ، نہیرن
retired	ریٹائر گوٹ
retirement	ریٹائر گٹرھُن
retirement benefits	ریٹائر گٹرھُنکو مراعات / فائدہ
retiring age	ریٹائر وائس
retiring pension	ریٹائر پنشن
retrenched staff	گھٹا ونہ آمت چھٹی کرنہ آمت عملہ
retrenchment	چھٹی کرنی، کم کُرُن
retroactive pay	پتم اصلی تنخواہ
return	1۔ ریٹرن 2۔ واپسی
return journey	واپسی سفر
return of post	واپسی ڈاک

revalidation	تازہ کَرَن
revaluation	نوسام پَنڈو، نو مولہ آکون
revenue	ریونیو، مالیات، آمدنی
revenue expenditure	مائی خرچہ
revenue stamp	رسیدی ٹکٹ
reverse	وُلطہ
reverted	واپس سوزمٹ
review	سام پَنڈو، نظر ثانی کَرَن
review board	سام کمیٹی
revise	بڑاؤن، دوبارہ طے کَرَن
revised agenda	نو طے کرنا آمت ایجنڈا
revised budget	نو طے شدہ بجٹ
revised estimate	نو تخمینہ
revised rules	بدلأوی متز قاعدہء
revision	دوہرواؤن، نظر ثانی کرنی
revision of pay scale	تتخواہ سکیلس نظر ثانی کرنی
revival	بحالی
revocation	منسوخ کَرَن، واپس اُنن
revoke	منسوخی، واپس اِنچ کارواؤی
revolution	انقلاب
revolving fund	گردش فنڈ
reward	ینامہ، شاباشی
reward scheme	ینامہ سکیم
right	1- صحیح، ٹھیک، دُرست 2- حق
rightful claimant	جایز دعویدار، صحیح دعویدار
rigid	ٹھٹھ
riot	فساد، بلوہء
risk	خطرہء، نقصان، جوکھم
risk purchase	جوکھم خرید
rival	حریف، مُخالف

road mileage	سڑک دوری، سڑک سفر الاؤس
roadways	سڑک ٹرانسپورٹ کمپنی، روڈ ویز
role	کردار
roll	1- فہرستہ 2- رول
rolling plan	چلون منصوبہ
roll number	رول نمبر
roster	روسٹر
rotation	دائرہ
rough	خام، کوچ
rough copy	رَف کاپی
rounding off	مکمل بناؤں، کانہہ رقم صحیح پائٹی لیکھن
route	کانہہ رقم پھٹولہ بغار لیکھن منڈان، بحر اوقم و تھ
routine	دوہدش کام، معمول
routine note	معمولک نوٹ
routine test	معمولک ٹیسٹ
royalty	رائٹی، عرضی رقم
rubber stamp	ربر سٹامپ
rude	شرارتی، تیز مزاج
rule	قاعدہ
ruler	1- حکمران 2- چپٹی، رولر
rules and regulations	قاعدہ قوانین
rules of business	بایاوری قاعدہ
ruling	رڈ لنگ، قاعدہ
ruling party	حکمران پارٹی
rumour	افواہ
running staff	کام چلاؤنگ عملہ
rural development plan	گامی ترقی منصوبہ
rural upliftment	گامی پاپرجامی
rustication	خارج کرون
S	
sabbatical leave	تھک پھٹی
sabotage	ضرورتاؤں
sack	پٹاؤں، برخواست کرون، کڈ تھ اٹن

safe	1- محفوظ 2- غلطیہ
safe custody	محفوظ تھوٹھ، رزھراؤ تھوٹھونی
safeguarding	رأ چھی کرنی، تحفظ ڈین، بچاؤن
safety	حفاظتھ
safety device	حافظتی آلہ
safety regulations	حفاظتیں قاعدہ
salaried class	تنخواہ دار ملازم ورگ
salary	تنخواہ، طلب
salary cheque	تنخواہ چیک
salary deduction	تنخواہ شرہ، ٹرن، تنخواہ کٹوتی
salary review	تنخواہ چ نظر ثانی
salary structure	تنخواہ ڈھانچہ
sale deed	بیہ نامہ
sales department	بکری محکمہ
sales tax	بکری ٹیکس، سیلز ٹیکس
salient	خاص خاص
salvage	بچاؤن، بازیاب کرن
salvage and scrap	کباڈی، ژدی
sample	نمونہ
sample checking	نمونہ جانچ
sample survey	نمونہ سروے
sampling	نمونہ ژ آر
sanction	منظوری، اجازتھ
sanctioned budget	منظور کورمٹ بجٹ
sanctioned budget estimate	منظور بجٹ تخمینہ
sanctioned project	منظور پروجیکٹ
sanctioned strength	منظور تعداد
sanctioning authority	منظوری دنہ دول حاکم
sanctioning order	منظوری حکم
sanctity	پاکیزگی
sanitation	صحت وصفائی
satisfaction	تسلا، اطمینانی
satisfactory	تسلا بخش، اطمینان بخش
saving clause	بچت دفعہء
savings scheme	بچت سکیم

scale	شرح، ماپ، ڈنڈ
scale of pay	تنخواہ سکیل
scarcity	ویرھے
scarcity area	ویرھیہ شوبہ
scarcity of resources	وسلین ہیزگی
scenario	منظر، حالاتھ
schedule	شیڈول، پروگرام تفصیل
scheduled bank	شیڈول بینک
scheduled caste	درجہ فہرست ذاتھ
scheduled tribe	درجہ فہرست قبیلہ
schedule of demands	منگہ فہرستھ
schedule of supply	سپلائی شیڈیول
scheme	سکیم
scholarship	وظیفہ
scientific management	سائنسی منتظمی
scope	گنجائش، ویستار
score	سکور
score out	ٹرن
scrap value	ژھوڑے مول
screening	چھان بین کڑن، پردس پیٹھ ہاؤن
screening committee	چھان بین کمیٹی
script	لکھائے، مسودہ
scrutinizer	پڑتالی
scrutiny	پڑتال
seal	مُہر
sealed	مُہر بند
sealed tender	موہر بند ٹینڈر
sealer	موہر چھاپ
seal of office	دفتری موہ
search	ژھانڈن، تلاش کڑن
search campaign	تلاشی مہم
search operation	تلاشی کاروآی
search warrant	تلاشی وارنٹ
seasonal unemployment	وقتی بے کاری
season ticket	وقت ٹکٹ، معیادی ٹکٹ
secondary	ثانوی، دویدرجک

secondary education	ثانوی تالیف
secondary industry	ثانوی صنعت
second class	دویم درجہ
secrecy	رازداری
secret	راز
secretarial	سیکرٹریٹک
secretariat service	سیکرٹریٹ سروس
secret ballot	خفیہ ووٹ
secret cover	خفیہ کوری / خفیہ لفافہ
secret funds	خفیہ فنڈ
secret inquiry	خفیہ تحقیقات
secret instruction	خفیہ ہدایت
secret letter	خفیہ خط
section	1- سیکشن 2- دفعہ
sector	1- شعبہ 2- سیکٹر
secular	سیکولر
security	1- سلامتی 2- ضمانت
security deposit	ضمانتی رقم
security instruction	سلامتی ہدایت
security measure	سلامتی ووپاے
segregate	الگ کرنا / تھون
seizure	ضبطی
select committee	سلیکٹ کمیٹی
selection	چناؤ، ڈاؤر
selection board	سلیکشن بورڈ، منتخب بورڈ
selection committee	سلیکشن کمیٹی
selection grade	سلیکشن گریڈ
selection post	سلیکشن اسامی / عہدہ
selection procedure	سلیکشن قاعدہ
selection test	سلیکشن ٹیسٹ / سلیکشن امتحان
select list	منتخبی فہرست
self-appraisal (self-assessment)	از خود سام
self-confidence	پانس پیڑ بھروسہ، خود اعتمادی
self-contained note	وضاحتی نوٹ
self-employment	ذاتی روزگار

self-explanatory	وضاحت وول، وضاحتی
self-government	پنہی حکومتھ
semester	سیمیٹر
semi-autonomous	نیم خود مختار
seminar	سیمیٹار
semi-skilled labour	نیم ہونر مند موزور/ کامگار
senate	سینٹ
sender	سوزن وول
senior	سینئر تھوڈ
senior administrative grade	سینئر انتظامی گریڈ
senior grade	سینئر گریڈ
seniority	سینیاریٹی، قابلیت
seniority-cum-fitness	سینیاریٹی
seniority-cum-merit	سینیاریٹی یہ اہلیت
seniority system	سینیاریٹی نظام
senior management	تھوڈی منتظم، سینئر افسر
seniormost	سارنی زٹھ، سارنہ سینئر
senior scale	تھوڈ سکیل، سینئر سکیل
senior timescale	سینئر ٹائم سکیل
sensation	سنسنی
sensitive	حساس
sentence	1- جملہ 2- سزا، ڈنڈ
separated family	بیون گپ
separation	علحیدگی، ہنیر
sequence	ترتیب
serial list	ترتیب وار فہرستھ
serial number	ترتیب نمبر
series	دار یاہہ، مال، ڈمرہ
serious	1- سنجیدہ 2- سنگین
servant	نوکر، مہوینو
serve	پیش کرنی، سیوا کرنی، شہیرن
service	نوکری
serviceable	قابل مرمت
service book	سروس بک
service conditions	نوکری حالاتھ
service contract	نوکری معاہدہ

service of summon	سمن تا میل
service postage stamp	سرکاری ڈاک ٹکٹ
service record	سروس ریکارڈ، نوکری تفصیل
service roll	نوکری اندراج فہرست
service rules	نوکری قاعدہ
service verification	نوکری تصدیق
session	اجلاس، سیشن
session of parliament	پارلیمنٹ اجلاس
set	1- ٹھیک کڑن 2- مجموعہ
set aside	الگ تھون، مشکاھس کڑن
settlement	1- بندوبست 2- تصفیہ 3- بستی
set-up	1- نظام، ڈھانچہ 2- قائم کڑن
severally	الگ الگ پانھی
severance of relations	رشتن بنہر لگن
severe action	سنگین کارروائی
sewage	گندہ آب (زل مل)
sex	جنس، سیکس
sex discrimination	جنسی امتیاز
share	حصہ، باگراؤن
share holder	حصہ مالک
sharing	باگراؤن، لینے دینے استعمال کرن
shift	شفٹ، واری، مقرر وقت
shifting	بدلاؤن، اور پورینون، جایہ پھیر
shift system	وارہ نظام
shift transfer	واری بدلاؤن
shortage	کمی، وبڑھے
shortage of manpower	افراد کی وبڑھے
shortfall	کمی
shorthand	شارٹ ہینڈ
short leave	کم کالج چھٹی
shortlist	لوکٹ فہرست
short notice	کم وقتی نوٹس
short staffed	عملہ کمی
short term	کم مدتی
short-term-course	کم مدتی کورس
short title	ٹھوٹ عنوان، ٹھوٹ ناد

show cause notice	وجہ بناؤ نوٹس
shut down	بند کرنا
sick industry	ناکار بیمار صنعت
sick leave	بیماری چھٹی، داؤچ چھٹی
sickness benefit	بیماری مراعات
sick report	بیماری رپورٹ، دآدی رپورٹ، بیمار
sign	1۔ دس خط، دس خط کرنا، 2۔ نشانہ، علامت
signature	1۔ دس خط 2۔ شناخت
signature campaign	دس خط مہم
signature pad	شناختی پیڈ
significant	آہم
signify	دُن، ظاہر کرنا
similar	ہبوی، مسآوی
simple interest	سادہ سؤد
simultaneous	بیک وقت، ستر ستر
simultaneously	ستر ستر، بیک وقت
sincere	تابعدار، وفادار
sine die	غیر مقرر وقت
sine qua non	آزم شرط
single entry system	اکھ اندراج نظام
single fare	اکھ طرح کرایہ
single file system	اکھ فائل نظام
sir	جناب، مہرا، حضور
site	جائے، موقعہ
site plan	جائی نقشہ
sitting member	موجود ممبر
situation	حالتہ، حالاتہ
situations vacant	خالی اسامیہ رخائی جایی
situations wanted	اسامیہ درکار
skeleton staff	تھوٹ عملہ، معمولی نفری
skilled labourer	ہوزمند کامگار
slackness	ڈبجری، بیکاری
slack season	بیکاری تندی وویہ
slander	لیکھ، دُہی
sleeper class	سلیپر کلاس
sliding scale	وسون سکیل
slip	1۔ پرچہ 2۔ چوک وشف

slow down	کم گروہن رفتار بھٹن
slum	خام بستی
slump	گراوٹھ
small savings fund	لوٹ بچت فنڈ
small scale enterprise	لوٹ کام
small scale industry	لوٹ صنعت
smartness	چستی، چالاکی
smooth	بلاخلل، بلا روکاؤٹھ
snap inspection	اچانک معاینہ
snap strike	اچانک ہڑتال
social security	سماجی تحفظ، سماجی سلامتی
social welfare	سماجی بہبود
software	سافٹ ویئر
sojourn	آرام، عارضی قیام
sole	1- واحد 2- آتما، روح
sole agency	واحد ایجنسی
solemn	پوز، سنجیدہ
solemn affirmation	پوزوٹن، پزربیانہ
solemnity	پزرنک، سنجیدگی
solemnize	رژوٹ کام کرینی
solemnly	پزریاٹھی
sole owner	کونوی مالک
solicit	منکن
sodarity	سجیبتی
solitary	واحد
solitary case	واحد معاملہ
solution	حل
solve	حل کرن
sorting	چھٹاے
sorting appliance	چھٹاے مشین
source	وسیلہ
source of income	آمدنی ذریعہ
souvenir	یادگاری چیز بریدہ
sovereign	خود مختار
sovereignty	خود مختاری
space	خلا، جاے

spacing	جائے تراونی
spade work	ابتدائی کام
spare	علاوہ، ہوریمانہ
spare copy	علاوہ کاپی
spare time	خالی وقت
speaker	پیکر، مقرر، تقریر کرن وال
special	خاص
special ability test	خاص اہلیت ٹیسٹ
special allowance	خصوصی الاؤنس
special cell	خصوصی صیغہ، خصوصی سیل
special commendation	خصوصی شہادت، خصوصی تائریف
special compensatory allownce	خصوصی معاوضہ، الاؤنس
special drive	خصوصی مہم/خاص مہم
special grant	خصوصی گرانٹ/خاص گرانٹ
specialist	ماہر، خاص ماہر
specialization	خاص مہارت
special messenger	خاص قاصد
special pay	خاص تنخواہ، خصوصی تنخواہ
special power of attorney	خاص موختارنامہ
special protection group (SPG)	ایس پی جی، خصوصی تحفظ گروپ
specific	مخصوص، خاص
specification	مخصوص، بناؤن، خاص ڈمرس مقرر تھاون
specific denial	مخصوص تردید
specific reason	خاص وجہ
specimen signature	نمونہ دس خط
speculation	قیاس آرائی، اٹکل
speech	تقریر
speed	رفتار
speed breaker	دیتھوڑ
speed limit	رفتار حد
speed post	سپیڈ پوسٹ، تیز رفتار ڈاک
speedy action	فوری کارروائی/تیزی سان کارروائی
sphere	شوپہ، احاطہ
spiral binding	سپائرل جلد سازی
split duty	الگ الگ دتھ ڈیوٹی
spokesman (=spokes person)	ترجمان

sponsor	سپانسر، اہتمام، شکر کرکرن وول
sponsorship	سپانسر شپ
spot inspection	موقعک معاینہ
spot payment	دستی ادائیگی
spouse	بائو، زنان، روم، گھر وول
squad	سکارڈ
stability	پایداری
staff	عملیہ
staff association	عملیہ ایسوسی ایشن
staff inspection unit (SIU)	عملیہ پڑتال یونٹ
staff quarter	عملیہ کوارٹر
staff room	عملیہ کمرہ، اسٹاف کمرہ
staff welfare fund	عملیہ بحالی فنڈ
stage	سٹیج، مرحلہ
stagnation	اُکسے عہدس پیچھے روزانہ ترقی نہ ملینی
stake	داو
stamp	1- ٹکٹ 2- موہر
stamp duty	اشٹام فیس
stamped envelope	ٹکٹ دار لفافہ
stamp pad	موہر پیڈ
stamp paper	اشٹام
stand	سٹینڈ، اوڈہ، چوکی
standard	معیار
standard agreement	معیاری سمجھوتہ
standard deduction	معیاری کٹوتی، رلاً زمی کٹوتی
standard format	معیاری فارمیٹ، رلاً زمی فارمیٹ
standardization	معیار بناوان، معیاری بناوان
standard man-hours	معیارک ماپ ڈنڈ
standard of living	زندگی ہند معیار
standard performance	معیاری کارکردگی
standard rate	معیاری در شرح
standby arrangement	مہدل انتظام، تیاری
standing	چالو
standing commission	چالو کمیشن، موجود کمیشن، مستقل کمیشن
standing committee	مستقل کمیٹی
standing order	نآفد حکم

standstill	تھامہ (گتر من)
starred	نشانہ دار رول
starred question	نشانہ دار سوال
starter	شروع (کھٹن)
starting salary	گوڈ نیک تنخواہ
state	1- سرکار، ملک، 2- حالت، 3- ریاست
state banquet	سرکاری سال
state government	ریاستی سرکار
state guest	سرکاری پوٹھ
state list	سٹیٹ لسٹ، سٹیٹ فہرست، ریاستی فہرست
stalemate	شٹھیاری، تعطل
statement	1- بیان، 2- تفصیل
statement of account	کھاتہ تفصیل
statement of facts	حقیقتہ بیان
state of health	صحیح حالت
statesman	دانشور
static	متعلق، تھامہ، گومت، اے کے حالتس منر، ٹھرتھ
station	سٹیشن
stationary stock	رکتھ شاک
stationery	قلم کاغذ، پیل قلم
station leave	سٹیشن لیو، دفتر چ جائے تراونک اجازتھ
statistical	اعداد و شمارن متعلق
statistical data	اعداد و شمار ڈاتا
statistics	اعداد و شمار
status	ہیت، حالت
status quo	حالت برقرار
status report	ہیت رپورٹ
status symbol	ویقارچ علامتی
statute	translation to be added
statutory	قانون
statutory body	قانونی تنظیم
statutory holiday	قانونی چھٹی
statutory rights	قانونی حقوق
stay	اتوا، روک روکاون
STD (subscriber trunk dialling)	ایس ٹی ڈی
steady growth	لگاتار، ترقی، پیہم ترقی

steep increase	کافی بڑوتری
steering committee	سٹیئرنگ کمیٹی
stenography	سٹیونوگرافی
sterilization	نس بندی
stern action	سنگین سخت کارروائی
stigma	ہانڈھ
stimulation	ترغیب
stipend	وظیفہ
stipulate	ارادہ کرنا، منصوبہ بنانا
stipulated time limit	مقرر وقت حد، وقت مقرر حد
stipulation	سپکڑن
stock	ذخیرہ، امبار، مال، سٹاک
stock register	سٹاک رجسٹر
stock-taking	مال پڑتال
stock valuation	مالچ مولہ آنکون
stopgap arrangement	عارضی انتظام
storage	گٹھ، گدام، ذخیرہ
storage space	جاپہ گدام
store	گدام
straight	سیو، صاف
strain	دباؤ، تناؤ
strange	عجیب
stranger	دو پر، اثر آئی
strata	سطح
strategy	اٹھ عمل، پالیسی
stratification	پالیسی تجویز
streamline	آسانی ریل بناؤ، سیو کرنا
strength	1- طاقت، قوت، 2- تعداد
strengthen	مضبوط کرنا
strenuous	جفاکشی تیز کام، مستحکم جتنی کام
stress	دباؤ، زور، اصرار، تکیا کرنا، تناؤ
stress management	تناؤ نزلراؤن
strict	سخت قانونس پابند
strictly	سختی سان
strictness	سختی
stricture	قانونی ہدایت

strike	1- ہڑتال، 2- حملہ، تکلیف
strike call	ہڑتال کا پیل
stringency	تختی بند اقدام
strip	چھل، ہلکہ
strive	کوشش کرنی، تکل و کرن، ووٹھڑھا ٹھانڈھ کرنی
storage capacity	جمع تھونج گنجائش
strong room	محفوظ کمرہ/ جاسے
structural	ڈھانچک
structure	ڈھانچہ
structured interview	منصوبہ بند انٹرویو، انٹرویو
structured pay	درجہ بند تنخواہ
struggle	جدوجہد
stubborn	ضدی
studios	مخفی
study	مطالعہ (کزن)
study leave	مطالعہ چھٹی
stuff	مواد
stupendous	حاران کرن و اجینی کام، بارہ کام
style	سٹائل، طریقہ، طرح، اسلوب
sub (subordinate)	ماتحت، نائب
sub-committee	ذیلی کمیٹی
sub-contract	ذیلی ٹھیکہ
sub-district	سب ڈسٹرکٹ، ضلع او
sub-division	سب ڈویژن، ڈویژن او
sub-head	ذیلی عنوان
subject	1- موضوع، 2- رعایا
subjective	ذاتی رائے
subjudice	زیر عدالت
sublease	سب لیز
subletting	کرایہ ڈین
submission	1- درخواست، عرضی، 2- مائن، 3- وقف کرن
submissive	نرم
subordinate office	ماتحت دفتر
subordinate services	ماتحت سروس
subordinate staff	ماتحت عملیہ
subparagraph	ذیلی پیرا
subrule	ذیلی رول، ذیلی قاعدہ

subscribe	1-چند سوژن 2-گراکھ پن ر بناون 3-اتفاق کرن
subscribed capital	لاگتہ آمت سرمایہ
subscriber	گراکھ
subscription	چندہ
subsection	ذیلی سیکشن
subsequent	امیر پتہ بعد ازاں
subsequent action	امیر پتہ کاروای
subsequently	امیر پتہ کاروای
subsidiary	معاون دفتر معاون کمیٹی، لوکٹ کمیٹی
subsidiary bodies	معاون تنظیمہ
subsidiary industry	امدادی صنعت
subsidiary mandate	ذیل درگاہ
subsidiary receipt	ذیلی رسید
subsidiary register	ذیل رجسٹر
subsidise	سبسڈی دنی، کم نیرخ کرن
subsidised	سبسڈی دار، کم نیرخک
subsidized accommodation	کم کراچی روزن جاے
subsidy	سبسڈی
subsistence	گزارہ کرن، روزن
subsistence allowance	گزارہ الاونس
subsistence grant	گزارہ گرانٹ
substandard	غار معیاری
substantial	کافی، اہم
substantiate	پزراؤن، پرکھٹاؤن
substantive	کافی، مؤل
substantive pay	مؤل عہدہ، تنخواہ
substantive post	مؤل عہدہ
substitute	مبدل، عرضی
substitution	(کنہ) بدلہ، بدلاؤن
sub sub-paragraph	ذیلی ذیلی پیرا
suburban	نیم شہری
subvention	عطیہ، مالی امداد
subversion	تخریب
subway	تل زمین و تھ
succeeding	دویم، امیر پتہ
succession	جانشینی

successive	متواتر، اکہ پتہ اکھ
successor	جانشین
succour	راحت، مدد
sue	مقدمہ کزن
suffer	تکلیف و تہراؤن، معیتھ رکشٹھ تلن
suffering	مُصیبہ کشت
sufficient	کافی، متول، مناسب
suffix	پذت لوگ
suffrage	ووٹ ونگ حق
suggestion	تجویز
suggestion box	تجویز پیٹی
suggestions book	تجویز کاپی
suggestive	اشارتی
suicide	خودکشی، پان ماژن، پانہ مور
suit	1- دعوی، مقدمہ 2- براہ من
suitability	مناسبت، جواز
suitable action	مناسب کارو آئی
suited	معقول
sum	1- جمع 2- رقم
summarily	سرسری طور
summary	نچوڑ
summary trial	سرسری سنو آئی / مقدمہ
summing up	خلاصہ پیش کرنی
summit	بہلہ پایہ (میننگ)
summon	سمن کڈنی، بلاؤن
sumptuary allowance	خرچہ الاؤنس
sum up	اندواتناؤن، اختتام کزن
sundry	بیون بیون، مختلف
suo moto	پانے پانے (نوٹ کزن رلوٹس ہش)
superannuation	نوکری پورہ کرنی، ریٹائرمنٹس وائٹن
superannuation pension	ریٹائر گونگ پنشن
superficial	فروعی، بیٹی بیٹی، غیر سطحی
superfluous	فالتو
superimpose	مزن (مزن)، حاو رسپدن، مسلط پڈن
superior	اعلیٰ، تھود، برتر
superiority	برتری

supernumerary	پیشہم تعیناد
supernumerary post	تھو و عہدہ
superscribe	پیشہ لکھن
superscription	پیشہ لکھتہ، پتہ
supersede	(کانسہ) برو تہ نیرن، پتہ تراون
supersession	کانہہ (نو کری منتر) پتہ تراون
superstructure	پیشہم ڈھانچہ
supertax	پیشہم ٹیکس
super timescale	سپر ٹائم سکیل
supervision	نگرانی
supervisor	نگرانی
supervisory staff	نگراں عملہ
supplement	1- ضمنی 2- ڈک کزن
supplementary	ضمنی
supplementary budget	ضمنی بجٹ
supplementary cost	ضمنی لاگت، ہو ریمانہ / اضافی لاگت
supplementary demand	ضمنی منگ / مطالبات
supplementary grant	ضمنی گرانٹ / ہو ریمانہ گرانٹ
supplementary question	ضمنی سوال
supplementary rules	ضمنی قاعدہ
supplier	سپلائی کرن وول
supply	سپلائی فراوانی، فراہمی
support	1- حما-تھ 2- مدد، ڈکھ
supporter	حمایتی، ممالی
supporting documents	حمایتی دستاویز
suppress	امدادی نہرنی
supremacy	دباؤن، کھٹتھ تھاؤن
supreme	برتری، زچھ
surcharge	اعلیٰ تور
surety	سرچارج
surety bond	ضمانتھ
surface inspection	ضمانتی بانڈ
surface transport	سطحی پڑتال
surgery	زمینی ٹرانسپورٹ
surname	آپریشن وغیرہ، ٹھڈھاٹھ، ذآ ژناو

surplus	خانداًنى، سُریمانہ
surplus budget	فائض بجٹ
surplus report	زاید رپورٹ
surplus staff	زیادہ عملہ
surprise check	بے خبر پڑتال، اچانک پڑتال
surprise visit	اچانک دورہ
surrender	واپس کزن (رقم وغیرہ)
surroundings	اؤندپو کھ
surtax	ٹیکس پیچھے ٹیکس
surveillance	نگرانی
survey	سروے، جائزہ
survey report	سروے رپورٹ، جائزہ رپورٹ
survival	زندہ روژن
surviving	زندہ، موجود
survivor	زندہ بچومت، موجود روژ دمت
susceptibility	اثر گہری
suspect	شک کزن
suspend	معطل کزن
suspense	1- معطلی، التوا 2- حارانی
suspense account	التوا کھانہ
suspension	معطلی
suspension order	معطل کر تک حکم معطل حکم
suspicion	شک
sustainable	قائم روزن وول، پوشہ وون
sustainable growth	پوشہ وون ترقی
sustained	مانی، قائم تھاوان، لگانار
swear	حلف تلین، قسم کزن
swearing-in-ceremony	حلف تلیناونچ تقریب
syllabus	نصاب
symbol	علامتھ نشانہ
symmetry	مساوت، برابری مشیر
sympathy	ہمدردی
sympathy strike	ہمدردی ہڑتال
symposium	سمپوزیم
symptom	علامتھ، اشارہ، باس
synchronise	رلاون، پیشتر یا دہ کزن
synopsis	ہرتر، رپ ریکھا، سناپسنر

synthesis	تجزیہ
synthetic	بناوٹی
system	سسٹم، طریقہ
systematic	طریقہ بند، حسابہ حسابہ
systematic work	طریقہ سان کام
systems analysis	سسٹم تجزیہ
T	
tab folder	ٹیپ فولڈر
table	1- میز، 2- فہرست
tableau	جھانکی
table of contents	مسودہ فہرست
table of the house	ایوانس منز پیش (کانہہ کاغذ) کرچج جائے پیش کزن
tabular	نقشہ دار، ترتیب وار
tabulated statement	ترتیب وار بیان
tabulation	پیش کزن (گنہ ایوانس وغیرس منز)
tabulator	ٹیبل کار
tackle	آنداؤن
tact	وطیرہ، طریقہ
tactful	طریقہ سان
tactic	طریقہ
tag	ٹیگ، تھوپن، تھو کزن
take home pay	کٹوتی کر تھہ پچومت تنخواہ
take over	پانس تحت رہنہ نس قبضہ تل ہن
talented	وصف دار، قابل
talent search	قابلیت کھوج
tally	رلاؤن
tally card	ٹیلی کارڈ
tampering	چھین، بگاڑن، سیٹھ ڈتو، خراب کرن
tangible	ٹھوس
tangible asset	ٹھوس اثاثہ
tape	ٹیپ فیتہء
tapping	1- (فون) ٹیپ کزن 2- جٹاؤن، استعمال کزن
tardiness	ڈبج، آرتھ
target	نشانہ، مقرر نشانہ، منزل
target date	مقرر تاریخ
tariff	محصول
tarnish	بگاڑن، خراب کزن

task	کام
task force	ٹاسک فورس
tax	ٹیکس
tax abatement	ٹیکس کمی
taxable	قابل ٹیکس
taxable income	قابل ٹیکس آمدنی
tax adjustment	ٹیکس بوز و شووز
tax assessment	ٹیکس طے کرنا / مقرر کرنا / جاہزہ
taxation	ٹیکس لگاؤ
tax avoidance (tax loophole)	ٹیکس ٹوڈر
tax consultant	ٹیکس صلاح کار / مشیر
tax declaration	قابل ٹیکس آمدنی ہادی
tax deducted at source	پیشے ٹوڈٹ ٹیکس
tax deduction	ٹیکس ڈٹن
tax evasion	ٹیکس ٹوڈر
tax exemption	ٹیکس چھوٹ
tax free	ٹیکس چھوٹ
tax payer	ٹیکس برن وول
tax rebate	ٹیکس چھوٹ
tax return	ٹیکس ریٹرن
tax schedule	ٹیکس شیڈیول / ٹیکس فہرست
team spirit	ساتھی جذبہ
team work	ساتھی ملتی کام
tear gas	اوش انن وول گیس
technical	تکنیکی
technical advice	تکنیکی صلاح
technical college	تکنیکی کالج
technical data	تکنیکی ڈاتا
technical post	تکنیکی عہدہ
technical qualification	تکنیکی قابلیت
technical skill	تکنیکی قابلیت
technical term	تکنیکی لفظ
technical training	تکنیکی تربیت

technician	ٹیکنیشن
technique	تکنیک، طریقہ
technocracy	تکنیکی سرانجام
technocrat	تکنیکی ماہر
technological	تکنالوجی ہندسہ
technologist	تکنالوجی ماہر
technology	تکنالوجی
telebanking	دور بینکنگ، تار بینکنگ
telegram	تار
telegraphic address	تار پیشہ
telegraphy	تار مواصلات
teleprinter message	تار چھاپا نام شجھی رنجر
television	ٹیلی وژن
teleworking	دور ترسیل کام
telex	دور ترسیلی ٹیلیکس
teller	دستی رقم مشین
temper	مزاج
temperament	بس بہاو
temperamental	تیز مزاج
temperature	درجہ حرارت
tempo	1- رفتار 2- ٹیمپو
temporary	عارضی طور
temporary advance	عارضی پیشگی، عارضی ایڈوانس
temporary appointment	عارضی تقرری
temporary disability	عارضی ناخیزدی، عارضی کھوچ
temporary post	عارضی عہدہ
temporary restriction	عارضی بندش
temporary vacancy	عارضی خالی اسمیٰ برجائے
temptation	تمبلن
tenable	فکر تیرؤن
tenacity	دربہر، لگن
tenancy	کرایہ داری، کاشتکاری
tenant	کرایہ دار، کاشتکار
tendency	رجحان
tender	ٹینڈر
tender box	ٹینڈر، پیٹی

tenderer	ٹینڈر برن وول
tender notice	ٹینڈر نوٹس
tentative	عارضی، تاملتھ
tenure	1- عہدک مدت، 2- پیٹھ
tenure of land	پیٹھ داری
tenure of office	عہدک مدت
tenure of post	عہدک کال
tenure of work	کامہ کال
tenure post	مستقل عہدک
term	1 معیاد 2 اجلاس مدت
terminable	قابل منسوخ
terminal (report etc.)	حتمی رپورٹ
terminal tax	بنہ محصول
termination	ختم کرون، منسوخ کرون
termination clause	منسوخی مد
termination notice	منسوخی نوٹس
termination of service	نوکری منتر کڈن بر طرف کرون
terminology	لفظ راش
term loan	معیادی قرضیہ
term of office	عہدک کال
terms	1- شرط 2- تعلق، رشتہ
terms and conditions	شرط و شروط
terms of delivery	سپردگی شرط
terms of reference	حوالہ شرط
terms of service	نوکری بندہ شرط
territory	1- علاقہ، حدود 2- پردیش
terror	آتک، دہشت
terrorism	دہشت گردی، آتک واد
terrorist	دہشت گرد، آتک وادی
tertiary benefit	تریم ترتیمہ سطحی فائدہ
test	جانچ، امتحان، ٹیسٹ
testament	وصیتھ
test charge	امتحان فیس
test check	نمونہ جانچ
tester	ٹیسٹر
testify	1- ثابت کرون 2- گواہی دنی

testimonial	سند
testimony	شہادت
testing report	جانچ رپورٹ
text	متن
thankful	مشکور، شکرگزار، آبخاری
theme	موضوع، عنوان
therapy	یلاج
third party	تریم دور
thoroughly	پورہ پانچھی
thoughtful	سوچن لایق
threat	دھمکی
thrift	خرچہ
through	1- ذریعہ 2- سیود
throw out	برتھ دین، داتھ دین، نہ مائن
thumb impression	نیوٹھ (کزن)
thumping majority	بار اکثریت
ticket	ٹکٹ
tie	1- ٹاے، 2- برابری، 3- گنڈن گنڈن کزن
tied loan	وابستہ قرضہ
tier	سطح، ٹیر
tilt	جھکاؤ
time	وقت، سے
time allowed	دیوتت ریمیونٹ وقت
time barred	پابند وقت رو قفس تا بین
time bound	مقرر وقتک
time card	ٹائم کارڈ
time deposit (=fixed deposit)	معیاری جمع
time keeping	سے پالن
time limit	وقتک حد
time off	مہلتھ
time overrun	وقتہ علاوہ
timed programme	مقرر وقتک پروگرام
time rate (time work)	مقرر وقتک کام
time recording machine	وقت ریکارڈ مشین
time scale	ٹائم سکیل
time schedule	وقتک شیڈیول، وقت، مقرر وقت

time stamp	وقتچہ موہر
time study equipment	سے پڑتال مشین
time table	ٹائم ٹیبل
timing	وقت مقرر کرکرن
tips	1- اشارہ 2- بخشش
title	1- عنوان ناو 2- عہدہ 3- حق
title holder	حقدار، مالک
toilet	ٹوکیٹ
token	1- ٹوکن، نشانہ 2- علامتھ
token member	ٹوکن نمبر، علامتی نمبر
token pay	علامتی تنخواہ
token strike	علامتی ہڑتال
tone	لہجہ
tone down	نرمی کرکرن، نرم کرکرن
tone up	چخت کرکرن، تیز کرکرن، مضبوط کرکرن
tool	آواز
tool down strike	کام چھوڑ ہڑتال، آواز بند ہڑتال
top	تھرر، تھور، ڈکنہ
topic	موضوع
top level discussion	اعلیٰ سطح فاصلہ
top management	اعلیٰ منظمی
topmost	اعلیٰ ترین، سارنی زبھ
top official	بوڈ افسر
topography	علاقہ خدو خال
top priority	گوڈ انواری تھرر، انواری
top ranking	اعلیٰ درجہ پٹھم
top secret	واریاہہ خفیہ
torture	عذاب، راعتاب
total	1- جوڑ 2- کل
total service	کل سروس
tough	مشکل، کڑوٹھ
tour	دورہ
tour programme	دورہ پروگرام
tour report	دورہ رپورٹ
tout	دلالت

town (city)	قصبہ، نگر
township	نگری، پستی، قصبہ
trace	ٹھانڈا، لہن
tract	وتھ
traction	سبڑین
trade agreement	تجارتی سمجھوتہ
trade union	ٹریڈ یونین
tradition	ریواس، دستور، پرپرا
train	1-ریل، ریل گاڑی، 2-ترتیب وڈی
trainee	زیر تربیت
traineeship	تربیتی وظیفہ
trainer	تربیت کار
training	تربیت
training centre	تربیت مرکز
training college	تربیتی کالج
training division	تربیتی ڈیویژن
training institute	تربیتی ادارہ
training period	تربیتی مدت
training programme	تربیتی پروگرام
training unit	تربیتی یونٹ
trait	اوصاف، لکھن
traitor	غدار
tranquility	شانتی
transaction	لین دین، ویوہار
transaction of business	کاروبار چلاؤن رہا پارک لین دین
transcription	لیکھن لیکھ مواد
transfer	ٹرانسفر کرن، تبدیل کرن، منتقل کرن
transferable goods	قابل منتقل سامانہ
transfer entry	منتقلی اندراج
transfer fee	منتقلی فیس
transfer memorandum	منتقلی یادداشت
transfer on deputation	ڈیپوٹیشن ٹرانسفر تبدیلی
transfer order	تبدیلی آڈر
transformation	بدلاؤ
transit	مسافر برداری، راہداری
transit duty	راہداری محصول

transitional	عبوری، درمیانی
transit pass	راہداری پاس
transit visa	راہداری ویزا
transit workshop	راہداری ورکشاپ
translation	ترجمہ، انواد
transliteration	خط بدلی
transmission	ٹرانسمیشن، موؤن
transmit	موؤن، ترسیل کزن
transport	ٹرانسپورٹ
transport allowance	ٹرانسپورٹ الاؤنس
transportation	ٹرانسپورٹ ذریعہ موؤن، ٹرانسپورٹ وسیلہ
transposition	جایہ پھیر
trap	زال، پھسساؤن
travel	سفر
travel expenses	سفر خرچہ، لتہ گتہ
traveller's cheque	ٹریولر چیک
travelling allowance	سفر الاؤنس
travelling allowance bill	سفر الاؤنس بل
travelling concession	سفر رعایت
treachery	بے وفائی
treason	بغاوت
treasury	خزانہ
treasury bench	سرکاری دؤر
treasury deposit receipt(T.D.R.)	خزانہ جمع رسید
treasury receipt	خزانہ رسید
treasury voucher	خزانہ ووچر
treat	یلاج کزن، ویو پار کزن، مائن
treaty	معاہدہ
treaty of extradition	حوالگی، معاہدہ
trek	پہاؤی تھ
trend	نچ
trespass	مداخلت (اختیارس روٹہ)
trial	کوچ بقایا
trial balance	آزمائش وقت
trial period	قبائلی وقت
tribal area development	قبائلی علاقہ ترقی

tribal welfare	قبائلی بہبودی
tribe	قبائل
tribunal	ٹریبونل
tribute	خراج عقیدت، شروہا، نجلی
trim	ٹھوٹراون، کاٹھ چھانٹھ کڑن
trip	دورہ، سفر
tripartite	ترین درین ہندرتروڈور
triple	ترگنہ، تروگترن
triplicate	تریہ کاپہ، تریہ نقل، تروڈولہ
true copy	نقل
trunk call	ٹرینک کال
trust	1۔ بھروسہ، ویشواس، 2۔ ٹرسٹ
trustee	ٹرسٹی
trustworthy	بھروسہ لایق
turn down	نامنظور کڑن
turnkey basis	تیمی تیار، بنیاد پچیچھ
turnout	یادوار، مال
turnover	گھل کاروبار
turpitude	کھمن، زربروا تیاؤن
tutelage	سرپرستی
twin city	نوشہر، دوکڑ شہر
twin sharing basis	دو نفری ورتا وراستمال بنیاد درون بابیت
type	1۔ ٹایپ 2۔ قسم
typescript	ٹایپ کاپی
typewriter	ٹایپ رائٹر
typewriting	ٹایپ کڑن
typical	خاص، منفرد
typing	ٹایپ کڑن
typing machine	ٹایپ مشین
typing pool	ٹایپ پؤل
typographical error	ٹایپ کڑن غلطی
U	
ulterior motive	غیبی مقصد، بد نیت
ultimate	آخری، حتمی
ultimate consignee	آخری مال رن وول
ultimate cost	حتمی لاگت گھل لاگت

ultimate goal	آخری مقصد، اعلیٰ مقصد
ultimately	آخر میں
ultimately objective	آخری مقصد، اعلیٰ مقصد
ultimatum	آخری ڈیوان، دہمکی
ultimo	حضور تک
ultravires	حق پھر
umpire	امپیر، فاصلہ کرن، دول
unacceptable	ندمان، اذیت، ناقابل تسلیم
unaccompanied baggage	سامان، اسباب، بیڈ یا سٹی آسیر
unaided	غیر مدد آدی
unambiguous	صاف، بظاہر واضح، غیر مبہم
unanimity	مشترکہ رائے، اتفاق رائے
unanimous	آکھارے، اکتھے رائے
unanimous decision	مشترکہ فیصلہ، اتفاق فیصلہ
unassuming	سودا، سادہ
unattached	تعلق نہ آسٹن، بیون
unauthorized	غیر روکھا، دول، بے سگاہ
unavoidable	بیہ نہ ٹالنیو، بالائی زمی
unavoidable circumstances	ندالہ وئی حالات، بالائی زمی حالات
unavoidable delay	ندالہ وئی تاخیر
unbecoming	بیہ نہ پڑھ
uncashed	(چیک) یوس نہ کیش، آسیر آسٹن کر نیو
uncertain	غیر یقینی
unclaimed	لاوارث، بے مآ کھ
unclaimed baggage	بے داوا سامان، بے مآ کھ سامان
unclassified	بیہ نہ درجہ بندی، آسیر کرنے آمپ، پس نہ راز آسیر
uncommitted	لا تعلق
uncommon	غیر معمول، بیہ نہ عام آسیر
uncompromising	ضدی، کٹر
unconditional	شرط روکس، بلا شرط، بغیر شرط
unconfirmed	غیر مستقل، غیر تصدیق شدہ
unconfirmed report	غیر یقینی رپورٹ، غیر مصدقہ رپورٹ
unconstitutional	غیر آرائی
uncontested	بلا مقابلہ
uncontrolled	بے قابو
uncontroverted	ناتایید، بتو نہ روس، نہ ریلو و ان
uncovered demand	منگک یوس پور، بیہ نہ کرسیر
undated	بیہ تاریخ، تاریخ نہ روس، بغیر تاریخ

undelivered letter	ندواناوند، آچو چٹھی، ندند آچو چٹھی
under	1-تیل 2-کم
under-age	کم وائٹس
under assessment	کم تخمینہ
under billing	کم بیل
under certificate of posting	ڈاک سٹیٹیکٹ تحت
under consideration	زیر غور
underconsumption	کم ورتاؤ
underdeveloped	کم ترقی وول، کم ترقی یافتہ
under employed	کم کامیہ وول، بیس نہ کافی کام آسہ
under employment	کم روزگار
under-estimate	کم تخمینہ
under examination	زیر غور، زیر عام
undergraduate	انڈرگریجویٹ
underground	زیر زمین، زمینہ تل
under-hand dealing	ہیس پردہ ہنڈور ہنڈلین ڈین
under invoicing	کم بیل باؤٹی
underlined	تھہ تلم پرکھ آسہ، نمایاں
under-manned	کم انفری وول
under-paid	کم اجرت (دند آچو)
under-population	کم آبادی
under-production	کم پیداوار
under reference	زیر حوالہ
undersigned	رأقم، دس خط کرن، وول
understanding	مفہمت، بوزوشوز، سمجھداری
undertake	1- ذمہ بیون، عطیہ بیون 2- وعدہ کرن، قول، میڈار کرن
undertaking	وعدہ، لکھتہ ڈین
undertrial	1- زیر آزمائش 2- زیر مقدمہ (قیدی)
under-utilization	کم استعمال
under-valuation	کم ہولہ آکون
undesirable	غأرضور ڈری، ناپسندیدہ
undignified	بے وطیرہ، وبقارر ڈس
undisbursed loan	ند باگرمست قرضہ
undisputed	بلاشک، تنازعہ رڈس
undivided	متوٹو تھہ، حصہ رول
undoubtedly	بلاشک، بے شک
undue	غأرواجب
undue delay	غأرواجب زیر

undue influence	غأرواجب اثر سونخ
unearned income	ؤسنے شرآمدنی، نزمینی شرآمدنی
unearth	شراون، نون کڈن
uneconomical	بے فقأیدہ، بے سؤد
unemployment	بے روزگاری
uneven land	بے سوتر زمین
unexpected delay	بے توقع زبر، زیادہ زبر
unexpired	موجود، تازہ، پتھ نہ مدت، مویکیومت آسہ
unfair	ناجأیز
unfair dismissal	ناجأیز بر خاستگی
unfair labour practices	ناجأیز کامگارو یو بار
unfair means	ناجأیز طریقہ
unfavourable	ناسازگار، ناموآفق
unfit	ناموزونی، ناٹھیک
unfit for promotion	ترقی بایت ناموزون، ترقی نہ لالاق
unforeseen	بتھ یدن ول، لاچھ
unforeseen charges	أسوچھ لاگھ، لاگھ بییک نہ سؤچھت آسہ، اندازہ آسہ
unforeseen circumstances	اوجھی حالاتھ
unicameral	اکھ ایوان ول
unicameral legislature	اک ایوانی قانون سازیہ
unification	رلاون، ٹھڈ کرن، گن کرن
unified scale	زل سکیل
uniform	1- وردی 2- ہیودی
uniform increase	ہیوی ہور بر
uniformity	بشیر، مساوات
unilateral	یکطرفہ، اکہ طرف
unilateral action	یکطرفہ کارو آی
uninterrupted power supply (UPS)	باؤٹلل پاور سپلائی (یو پی ایل س)
uninterrupted service	باؤٹلل سروس
union	یونین، تنظیم
unionism	یونین بآزی
union list	مرکزی فہرست
union territory	مرکزی اہتمالک علاقہ
unique	منفرد، بے مثال
unit	یونٹ، ماپ، اکھ عدد، اکائی
unitary	اتحاد، اکائی ول، وادی
united	ملتر ار، اتحاد، ٹیکٹ
unity	اتحاد

universal	آفاقی، ہمہ گیر
unjust	نامنصفانہ
unlawful	غارقوٹونی
unlawful purpose	غارقوٹونی مقصد
unlimited	بے حد، بیدرس
unlimited power	بیدرس اختیار
unlisted	بے فہرست، فہرستہ بیہر، بے اندراج
unloading	مال و اُن
unmarried	انہؤ راء انکھرش
unnatural	غارقطری
unnatural death	غارقطری موت
unnecessary	غارقصورؤری
unofficial	غارسرکاری
unofficial letter	غارسرکاری چٹھی
unofficial note	غارسرکاری نوٹ
unofficial strike	غارقوٹونی ہڑتال
unopposed	بلا مقابلہ
unpaid wages	بے ادا اجرت
unparliamentary	غارقار پارلیمانی
unpopular	غارقمقبول
unprecedented	بے مثال
unpredictable	بے بھروسہ
unproductive	غارقار پاد آواری
unproductive labour	بے سود موزؤری
unprofitable	بے سؤ، بے فائدہ
unpunctual	دقتک غارقار پابند
unqualified	بلا شرط
unqualified apology	شرطوں مائی
unquestionable	بے اعتراض، بے سوال
unrealizable sum	ڈوبیومت رقم، کھیتومت رقم
unreasonable	نامعتقول، نامناسب
unrecorded	بے اندراج
unregistered document	بے رجسٹر ڈوستانویز
unregistered firm	بے رجسٹر کمپنی فرم
unreserved vacancy	غارقار ریزرو خال جاپے راسامی
unsafe	غارقحفوظ
unsatisfactory	غارقار تسلی بخش
unsecured	غارقحفوظ

unsecured loan	غائر محفوظ قرضہ
unserviceable	بے کار، تھک نہ مرمت سپد تھ، یکے نابکار، غار تا میلی
unskilled	بے ہونر
unskilled labour	بے ہونر کامگار
unsound mind	بے دیمانگ، پاگل
unspecified	غائر مقرر، غائر واضح
unstable	نا پایدار
unstable government	نا پایدار سرکار
unstarred	نشانہ روس
unsuitable	نامعقول، بے مناسب
untenable	غائر معقول، بے وزن
untouchability	چھو لچھوت
untrained	بغیر تربیت، آچھل
untrustworthy	بے بھروسہ
unused	بے استعمال، نہ ورتو مت، پرژرس نہ لوگت
unusual delay	سینھاہ ڈیر، غائر معمولی ڈیر
unutilized grant	بے استعمال گرانٹ
unwarranted	غائر ضروری
unwilling	بے رضامند، بے غرض
unworthy	نالایق
updatation	تازہ کران، نو و بناوان
upgrade	بہتر گرن، بڑاوان
upgrading	بہتری، برتری
upgrading of post	عہدہ بڑاوان
uphold	برقرار رکھون
upkeep	رکھ رکھاو
uplift	ترقی، بہتری، خوشحالی
upper	چٹھم، ہیرم
upper age limit	ہیرم و اُس حد
uppermost	سارنی چٹھم
up to date	تازہ ترین، از تائھ
upright	1- پوز 2- سیود
upset	ماپوس گوٹھن، گز بڑ کرن، رگوٹھن
upward communication	ہیور کن پیام
upward trend	کھسوتی نیچ
urban	شہری
urbanization	شہر بساوتی، شہر بڑاوتی، شہری ترقی
urgency	تا جلی

urgent	فوری طور، دونی، یچی دمہ
urgent action	فل فورکاروای
urgent call	فوری کال
urgent slip	تا تلی پرچی
usage	ورتا و
useful	فایدہ مند
user	استعمال کرن وول
user item	قابل استعمال چیز، صورتی چیز
usual	عام طور
usurp	تھہہ وڈی
utility	ورتا و، استعمال، فایدہ
utilization	ورتا و، استعمال
utilization certificate	ورتا و سند استعمال سند
V	
vacancy	خالی اسامی
vacant post	خالی عہدہ
vacate	1۔ خالی کران 2۔ تران
vacation	چھٹی
vacation pay	چھٹی تنخواہ
vacuum	خالی پن
vague idea	غاروا صحیح خیال، ایوک خیال
valedictory address	انتقامی تقریر
valedictory function	انتقامی تقریب
valedictory session	انتقامی اجلاس
valid	جائز
valid argument	جائز دلیل
validity date	توثیقی تاریخ، تصدیق تاریخ
valid reason	جائز وجہ، معقول وجہ
valuation	مولد آنکون
valuation certificate	مولد آنکون سند
valuation report	مولد آنکون رپورٹ
value	1۔ مول 2۔ اہمیت
valuer	تخمین کار
variable	تبدیل پذیر
variance	1۔ فرق، تبدیلی 2۔ نا اتفاق
variant	مختلف، بیون، الگ
variation	تبدیلی، فرق
variation in quality	میانج فرق

variety	اگ الگ قسم، بیون بیون قسم
vehicle	گاڑی
ventilate	بادھ کرئی
venture	1- کام 2- جو کھم
venue	جاء
veracity	پزر، ہتھتھ
verbal	زبانی، زبویہ بتی
verbal agreement	زبویہ، زبان دنی، زبانی معاہدہ
verbal discussion	زبانی بحث
verbal order	زبانی حکم
verbal statement	زبانی بیان
verbal warning	زبانی وارنگ، زبانی تنبیہ
verbatim	لفظ بہ لفظ، بالکل تی
verbatim report	لفظ بہ لفظ رپورٹ
verdict	فصلیہ
verification	پڑتال کزن
verification of antecedents	ذاتی پوت کال پڑتال
verification of stores	سٹور پڑتال
verification sheet	پڑتال شیٹ
verified copy	تصدیق کورمٹ نقل
vernacular	مقامی
version	1- ترجمہ 2- احوال
versus	بنام
vertical communication	ہیر یون ترسیل
vertical filing system	دوونی مسل طریقہ
vertical mobility	راست گشتی
very good	سبھاہ رت
vessel	1- باجہ 2- سمندری جہاز
vest	اختیار (ڈین) آسن
vested right	دنا آمت حق
veto	ویٹو، ووٹ روکن رنڈین
vetting	چانچ کرنی
vettor	چانچ کرن دول
via	براسیہ
viability	قابل بور (آسن)، اہلیت
viable	قابل بور، قایہ مند، قابل کار
via media	وتھ کتھ
vice	1- نائب، آپ، 2- وائس

vice versa	اولیہ بدل
vicious circle	بد آؤن
victimise	شکار کزن، پریشان کزن
victimization	نقصان و اتناؤن، شکار کزن
victory	فتح، زبٹن
video conferencing	ویڈیو کانفرنس کرنی، ویڈیو ذریعہ کتھ ہاتھ کرنی سٹکن
view	نظر، نظارہ
view point	نظریہ
views	خیالات
vigilance	1- وچکی نئس 2- خبر گیری
vigilance case	وچکی نئس معاملہ
vigilance clearance	وچکی نئس منظوری
vigorous	مشکل، زوردار
vindictive	کیہ پرور، قصاص بینک جذب آسن
violate	عدولی کرنی
violation	عدولی
virtue	گون، وصف
virtuours	گونوان
visa	ویزا
vis-a-vis	اتھ مقابلہ اتھ برکس، اتھ تی
visit	دورہ، سن گزٹن
visiting hours	میلنک وقت
visitor	سمکھہ آمت، سمکھن وول، آمت نفر، ملاقاتی
visitor's book	ملاقاتی کتاب
visitor's gallery	ملاقاتی گیلری
visual	1- شکل 2- قلمی
visual display	فلمہ ذریعہ باؤن تصویرہ شکلہ ذریعہ باؤن
visual inspection	علمین پڑتال
visualize	سوچن، تصور، بناؤن
visual publicity	تصویری پرچار
vital	1- اہم 2- توڑک
vitality	1- طاقت، قربت 2- اہمیت
vital part	اہم حصہ
vital service	اہم سروس لازمی سروس
vital statistics	اہم اعداد و شمار
viva voce	زبانی امتحان
vivid	1- صاف، عیان، 2- بون بون
viz.	مطلب، معنی

vocabulary	لفظ و وتر
vocal	صاف گو، کتھ گو
vocation	صاف گو، کتھ گو
vocational	پیشہ
vocational guidance	پیشہ و ارانہ ہدایت
vocational training	پیشہ و ارانہ تربیت
voice	آواز، کتھ
void	خلا، خالی، شونیہ
volume	1- جلد 2- مہندار
voluminous	بھارہ، بھارہ مہندار وول، بوڈ
voluntary	رضا کارانہ، ہندہ مرضی یہ
voluntary agency	رضا کارانہ تنظیم
voluntary settlement	رضا کارانہ تصفیہ
voluntary work	رضا کارانہ کام
volunteer	رضا کار، والٹیر
votable	قابل ووٹ
vote	ووٹ
voted	ووٹ دپوتہت، ترورمٹ
vote of censure	علائتی ووٹ
vote of thanks	شکریہ ووٹ
vote on account	اٹھٹی رقم، پیہہ رقم، ہاتھ منظور رقم
voter	ووٹر
voting	ووٹنگ، ووٹ تراون، ووٹ ڈین
voting by ballot	1- بیلٹھ ڈرایہ ووٹنگ 2- صندوقہ ڈرایہ ووٹنگ
voting right	ووٹ تراونک حق
vouched	ضمانت، تصدیق کرتھ
voucher	ووچر، رسید
vow	قسم، وعدہ
vulgar	1- بے جا 2- رفتاہ
vulnerable	قابل احتمال، پتھ پایہ
vulnerable section (of society)	ساجک پتھ پایہ درگ
W	
wage	مزوری، اجرتھ
wage administration	مزوری انتظامیہ
wage agreement	مزوری قرار
wage board	تنخواہ بورڈ، مزوری بورڈ
wage ceiling	مزوری ہند زیادہ کھوتہ زیادہ حد، اجرتھ حد
wage contract	مزوری شیکہ

wage earner	مزوری کماون وول ہمزور
wage formula	مزوری فارمولہ
wage payment	مزوری وئی
wage policy	مزوری پالیسی
wage rate	مزوری شرح
wage review	مزوری نظر ثانی
waiting list	پراون وومیید وار فہرست
waive	تراوان، ترک کزان، چھوٹ وئی
walk-in-interview	دقی انٹرویو
want	1- کمی 2- ضرورت
ward	وارڈ
warehouse	مال گودام
warehousing charges	مال گودام خرچہ
warning	وارنگ، دھمک، تنبیہ کزان
warrant	وارنٹ، سمن
warranty	وارنٹی، ضمانت
washing allowance	چھلن الاؤنس، پلوچھلن الاؤنس
wastage	سربادی، ضایہ گوٹھن
waste land	بخر زمین
waste paper basket	ردی ٹوکری، ژھوٹہ ٹوکری
watch	1- پہرہ آچھ 2- گز
watch and ward	راچھ پوگر آئی
water proof	تھہ نہ آب تر
water supply	آبہ سپلاے، پال سپلاے
way bill	1- سفر خرچہ بیل 2- رایہ آرمی منظور پرچہ
ways	وتہ، طریقہ
ways and means	طریقہ، بطور طریقہ
ways and means committee	طریقہ طریقہ کمیٹی
wear and tear	1- پھٹ پھراٹھ سپدان 2- گسن، پرائن
weathering	موسم موافق بنن، موسمی اثر سپدان
weeding	چھٹناے
weed out	چھٹناے کرنی
weekly report	ہفتہ وار رپورٹ
weigh	توکن، وزن
weight	1- تول، وزن 2- بور 3- اہمیتی
weightage	1- اہمیتھ 2- زور 3- بار
weight bridge	توکن مشین، کابٹہ، تول بار
welcome	استقبال کزان، سواگت کزان

welcome address	استقبالی خطاب
welfare	بہبودگی
welfare state	خوشحال ریاست
well behaved	رُت و پو باروول
well-paid	جائی تنخواہ دار
well-qualified	جان پورمٹ لیوکھت
well-versed	جان مہارتھ تھون وول، زائن وول
whereabouts	پے پتہ
whereas	یٹلہ بیڑن، نیلہ زن
whimsical	سکلی
whip	وہپ، حکم
white paper	وائیٹ پیپر
whole-time	گُل و قی
whole-time employee	گُل و قی ملازم
wide ranging	وسیع، وسیع احاطہ وول
widely read	سیٹھا، پڑینہ
widow	بے واہ (زنان)، موٹڈ
widower	بے واہ (مرد)
wildcat strike	اچانک ہڑتال
wilful	زآ تھہ ما تھہ
window envelope	نون پتہ لفافہ
wind up	بند کرزن، پرموژن، وٹن
wing	1۔ ونگ 2۔ شاخ 3۔ کچھ
winter allowance	وندہ اولانس
wipe out	مٹاوان، ہٹاوان
wireless set	واپریس، بے تار
withdrawal	1۔ کڈن 2۔ واپس بیٹن
withdrawal of motion	تحریک واپس بی
withhold	روکارن بھمبراون
within	شر، اندر
without delay	تھیر لگنہ بغاری
without permission	بغیر ربا اجاتھ
withstand	دتیرون، برداشت کرزن
witness	گواہ
work book	ورک بک، کامیہ بی
work-charged	کامیہ برابر اجاتھ
work culture	کامیہ شہر و پوار پتہ، کام کار کرک ماحول
work environment	کام کار کرک ماحول

worker	کامگار، کام کرن وول، کارکن
worker's compensation	کامگار معاوضہ
worker's training	کامگار تربیت
work experience	کامیہ ہند تجربہ
work force	افرادی قوت
working	1. کام کار کرن 2. چالو، کام کرن وول
working committee	ورکنگ کمیٹی
working conditions	کامیہ ہند حالات
working days	کامیہ دوپہ
working group	ورکنگ گروپ
working hours	کامیہ ہند وقت
working knowledge	کامیہ شہر زانکاری، کامیہ ہند گیان
working paper	پہیادی دستاویز
working plan	کامیہ منصوبہ
working result	کامیہ ہند نتیجہ
working rules	کامیہ قاعدہ
working supervisor	کامیہ نگران
workload	کامیہ ہند بار
workman	کامگار
workmanship	کامیہ شہر مہارت
workmen's compensation	کامگار معاوضہ
work order	کامیہ ہند حکم
workout	طے کرن، حل کرن، حساب کرن، اشراون
work permit	کامیہ ہند اجازت نامہ
works	کامیہ
worksheet	کامیہ شیٹ
workshop	ورکشاپ
work stoppage	کامیہ بندی
work study	کامیہ مطالعہ، کامیہ سنجی
work to rule (strike)	قواعد مطابق کام کرنی، اکثر دسٹان کام کرنی
workup	سہل بنان
worth	1. بول 2. کزانی آسن
worthless	بے کار، بے نفع
worth recording	اندراج میں لینی، پکارنا لینی
worthy	گہوار
writ	رٹ، عدالتی درخواست، آئن کانسہ مقدمہ کرن تراوان،
write off	کھانڈ کر ڈالنا
write-up	لکھنا، مضمون

writing	لکھائی، لکھاؤ
writing pad	لکھنے کا پیڈ
writ petition	عرض، درخواست
written down value	دان آئنت مول، کم کرنا آئنت مول
written warning	لیکھ وارننگ، تحریری دہشکی
wrongdoer	غلط کرنا وول
wrongdoing	غلط کرنا، اتر کرنا
wrongful	ناجاہیز، غارتو، نونی، نقص دار
wrongful dismissal	ناجاہیز معطلی
wrongly	غلطاً، ناچھی
X	
Xerox copy	1. زپرکس کا کاپی 2. فوٹوکاپی
Y	
yardstick	ماپ، معیار
year-book	فہرہ کتاب
yearly	فہرہ، دور یہ پتہ ور یہ، سالانہ
year to year	ور یہ پتہ وائس تام
yield	یادوار، فصل
youth training scheme	نوجوان تربیتی سکیم
Z	
zeal	جوش
zenith	تھڑر
zero hour	وقفہ وقفہ
zero tax-paying capacity	نکیس دنگ شوہیہ سامر تھہ
zonal	زول، زونک، علاقائی
zonal coordination	زول تال میل
zonal office	زول دفتر
zone	زون
zoning	زون شر یا گرن